

۱۹۰۸

# مجموعہ ممکن و مستند بہارِ اُردو و طاق

سلسلہ شہداء قادریہ



اشرف المصنفین  
مولانا محمد قاسم قادری

رضا پبلی کیشنز لاہور

# ملک و مستند مجموعہ اوراد و وظائف

سلسلہ چشتیہ قادریہ

تکبیر عاشقان

شجرہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ

پہل اسماء

شجرہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ

شجرہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ منظوم

شجرہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ

دعائے مفننی

دعائے کیمیا کی سعادت

دعائے مونس اولیاء

صلوٰۃ النعمان

درد و آہیں غم

دعائے تکبیر

درد و کبریت احمر

دعائے کیمیا کی سعادت

سورہ یس

استغفار غوثیہ

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

سورہ یس

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

جملہ حقوق محفوظ

بیاد: امام اہل سنت مجدد دین و ملت، نائب غوث اعظم

امام احمد رضا خان قادری بریلوی قدس سرہ العزیز

بفیضانِ نظر: حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری علیہ الرحمۃ

85237

کتاب: \_\_\_\_\_ مجموعہ اوراد و وظائف

مؤلف: \_\_\_\_\_ مولانا غلام قادر اشرفی

صفحات: \_\_\_\_\_ 384

تعداد: \_\_\_\_\_ گیارہ

اہتمام: \_\_\_\_\_ صاحبزادہ میاں زبیر احمد علوی گنج بخش قادری ضیائی

اشاعت دوم: \_\_\_\_\_ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ، مئی 2005ء

ہدیہ: \_\_\_\_\_ روپے

ناشر

رضا پبلسی کیشنز

۱۸۶۔ انارکلی، لاہور

# فہرست

مندرجات

صفحہ

۵

۶

۱۰

۱۱

۳۱

۳۳

۴۱

۴۵

۵۵

۶۵

۷۹

۱۰۸

۱۱۶

۱۲۷

۱۳۷

۱۴۲

۱۴۵

عرضِ حال

تعارف

پدیہ تشکر و امتنان

اوراد و وظائف پڑھنے کے آداب و اجازت

اسناد و طریقِ زکوٰۃ

استغفارِ نوحیہ

عزِ بسمہ

الاسما را الاعظم

دعایا الفاتحۃ الشریفہ

سورہ یسین

اورادِ فتحیہ

دعائے نقاب

مسیباتِ عشر

الاسما را السبعہ

اسما را الحسنیٰ

دعائے بکیر

اسبوع شریف



۱۷۳	درود مستغاث
۱۹۵	صلوة کبریت احر
۲۱۲	درود اکبر اعظم
۲۳۸	صلوة الوصال
۲۵۲	صلوة الانبياء
۲۵۶	صلوة النامية
۲۷۰	دعاے موس اولیاء
۲۷۵	دعاے کیمیائے سعادت
۲۸۱	انتقام دعاے حیدری
۲۹۱	دعاے حیدری
۲۹۷	چهل اسماء عظام
۳۱۲	دعاے مغنی
۳۲۱	قصیدہ غوثیہ
۳۲۹	شجرہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ
۳۳۷	” حشتیہ نظامیہ اشرفیہ
۳۴۳	” حشتیہ منظوم
۳۶۲	” قادریہ
۳۷۳	” منودیہ
۳۷۵	تکبیر عاشقان
۳۷۹	دعاے مناجات حشتیہ

# عرضِ حال

یہ امر محتاجِ بیان نہیں کہ مارکیٹ میں بیسیوں مجموعہ وظائف لیتھو، آفسٹ، کئی سادہ، ولایتی جرمنی آرٹ پیپر پر مثالی طباعت معیاری طباعت کے یک رنگے، دورنگے، سہ رنگے جہانگیر کڈ پوس سے لے کر تاج کمپنی کے طنتے ہیں۔ پھر ایک اور کے اضافہ کی ضرورت کیا پیش آئی؟

احبابِ کرام میں نہ تاجریوں نہ سوداگر، ایک بوریا نشین بے نوا فقیروں، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان سے جو کچھ حاصل ہوا اسے خصوصاً اہل سلسلہ اور عموماً سالکین طالبانِ حق تک پہنچانے کا نیک ارادہ ہے اور بس نیز یہ کہ خواجگانِ چشت اہل بہشت کے معمولات ان تمام تر مجموعات میں طنتے ہیں اور بزرگانِ خاندانِ قادریہ کے وظائف سے سوائے اسبوع شریف اور دودرد شریف (سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ عنہ) اور کوئی نہیں پایا جاتا، پھر ان مجموعات کو مستند بھی قرار نہیں دیا جاسکتا کہ کسی صاحبِ مجازہ و ماذون نے نہ اپنی اجازت سے طبع کرایا اور نہ کسی کو اجازت دی سوائے بعض کے کہ حضرت فیضِ درحبت و حیدر العطر قطبِ زمان حضرت میاں علی محمد خاں چشتی فخری سجادہ نشین بسی شریف رحمۃ اللہ علیہ دعائے حیدری شریف، شرحِ حرزِ میانی، دعائے سیفی، چیل اسمار وغیرہ طبع کرنا کہ مفت تقسیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔

ایک مجموعہ وظائفِ خواجگانِ چشت ایک اور متبرک مقام سے شائع ہو رہا ہے مگر فسوس کہ اغلاط سے خالی نہیں، بزرگوں نے توجہ نہ فرمائی، خدام نے کستی سے کام لیا حال میں ایک مجموعہ عیبی سا نئے پر طبع ہوا مگر کتابت اتنی باریک ہے کہ ہر عمر کا آدمی اس سے تنقید

عہدیں ہو سکتا۔

مدت ہوئی نور محمد دہلوی نے ایک مجموعہ وظائف مع پنجسورہ طبع کیا حضرت قبلہ  
غریب نواز خواجہ حامد صاحب تونسوی کی اجازت سے مگر وقت گزرنے پر اس میں کمی بیشی  
کو دی گئی ہے، آخر فدام کے مطالبہ پر ان کی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے شیخ الہی بخش  
جلال الدین تاجران کتب کشمیری بازاہ لاہور نے ایک مجموعہ وظائف خواجگان اہل بہشت  
مع دلائل شریف کے اس وقت کے بزرگوں کی اجازت سے طبع کیا۔ اس پر حضرت خواجہ  
محمد دین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مہر ثبت ہے :

ذوہ شمس سلیمان عیاں محمد دین

اور خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گوڑوی، حضرت پیر خواجہ سید حیدر شاہ صاحب  
جلال پوری کے دستخط ہیں۔

وہ قیمت تمام مگر خاص وجوہ کی بنا پر ان کی دکان کافی عرصہ تک بند رہی اور  
وہ مجموعہ نایاب ہو گیا، اب طالبان حق اور متوسلین سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ متلاشی تھے کہ کوئی  
ایسا مستند، مکمل مجموعہ وظائف ملے جس میں چشتی قادری مقبولان بارگاہِ صمدیت کے معمولات  
یک جا مل جائیں تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے فقیر نے اپنے معمولات کو اس مجموعہ  
وظائف کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس مجموعہ میں ہر وظیفہ کی اساتذ  
طریق تلاوت، طریقہ زکوٰۃ بتا دیا گیا اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو بھی اجازت دیدی ہے کہ ہر شخص کما حقہ  
مستفیض و مستغید ہو سکے اور فقیر کے حق میں حسن خاتمہ کی دعا کرے، آمین۔

# تعلف

حضرت حکیم ملت چیم محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

بیعت یا وظائف کی اجازت صحیح العقیدہ سنی، دین کے ضروری مسائل سے واقف اور صحیح النسبہ بشیخ طریقت سے ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حیات میں اور بہ عطلتے الہی ہر غیب آپ پر ظاہر اور ہر نہاں عیاں ہے، متصرف فی الکائنات ہیں، محو اثبات کے دفتر کے حاکم اعلیٰ ہیں، کل قطب غوث اور ولی آپ کے ذکر کے سائل ہیں اور ہر آن انہیں اس سرکارِ عالی سے خیرات ملتی رہتی ہے جسے وہ آگے تقیم کرتے رہتے ہیں۔

بہ فیض سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) کی ارواح مقدرہ اپنے اپنے سلسلے کے مجازین و مریدین بالخصوص اور عوام کو بالعموم مستفیض کرتی ہیں اور سلوک کی منازل طے کرنے والوں کی روحانی تربیت فرماتی ہیں اور طالب کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ان حقائق کا اعتراف کئے بغیر بیعت اور اوراد و وظائف محض دھونگ ہیں یا فریب نفس، صحت عقائد کے بغیر اولیاء اللہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) سے منقول اوراد و وظائف کا ذکر و فکر بالکل بے اثر ہے سو داور تضحیح اوقات ہے لہذا کسی بد عقیدہ سے بیعت یا کسی



ذلیق کی اجازت نہ صرف ناجائز جگہ موجب خسرانِ آخرت ہے، دراصل لوگوں کے تہ و نوزہ و ظائف کے مجرمے جو انہوں نے عوام کو دائم تزیور میں پھنسانے کے لئے چھپو پھپتے ہیں، ان کے ورد سے روحانی فوائد و برکات سے محرومی کے ساتھ ساتھ ان کا ورد کرنے والا مرکب شیطان بن کر رہ جاتا ہے اس لئے کہ وہ مشائخِ سلسلہ کی توجہ اور امداد سے محروم ہو جاتا ہے۔

بہا اوقات یہ حقیقت بھی سامنے آتی رہتی ہے کہ جن بد عقیدہ لوگوں نے کسی

آیت یا اسم کا چبڑ کاٹا ہوتا ہے، ان کی حجار پھونک سے بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں، لیکن

اس سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا خوب نہیں، احقر راقم السطور کے علم میں ہے کہ بعض

غیر مسلم آیات قرآنیہ یا اسماءِ الہیہ کے عامل ہوتے ہیں اور ان کے تعویذ گنڈے تاثیر سے خالی

نہیں ہوتے، بعینہ بد عقیدہ نام نہاد مسلمانوں کے بتائے ہوئے اور ادو و ظائف و تعویذات

کے اثرات تو ظاہر ہوتے ہی ہیں مگر رضائے الہی اور رضائے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم

(جو اصل مقصود ہے) سے محرومی ہی ذہنی ہے۔

اس موقع پر یہ وصاحت کر دینا بھی از بسنِ مزوری ہے کہ کچھ افراد ایسے

بھی ہوتے ہیں جن کا شیخ صحیح العقیدہ اور صحیح النسب ہوتا ہے مگر باغوائے شیطانی اپنے

مشد کے طریق کو تیر دکھ دیتے ہیں، اس لئے بغاوت سے ان کی نسبت منقطع ہو جاتی ہے،

چونکہ مشائخِ سلسلہ ان سے نظریں پھیر لیتے ہیں اس لئے یہ خود اور ان کے مریدین طرح طرح

کے وناوس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان میں سے بعض کے مریدین تو خوابوں میں اپنے

پیر کا کلمہ پڑھتے ہیں اور بیز مرید کو تسلی دیتا نظر آتا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ!

المحدث ثم المحدث! کہ پیش نظر مجموعہ و ظائفِ حشیتیہ قادریہ کے مولف و

مرتب اشرف المصنف حضرت الحاج مولانا پیر غلام قادر حشیتی قادری اشرفی مدظلہ العالی اہلسنت

کے جدید عالم دین اور صحیح نسبتیں رکھنے والے روحانی پیشوا ہیں، ان کی زندگی جہدِ مسلسل

کا ایک ارفع و اعلیٰ نمونہ ہے، درس و تدریس، خطابت اور سجادہ شریعت پر فائز ہونے کا

باوجود بوقتِ ضرورت میدانِ رزم میں بھی کود جاتے ہیں چنانچہ تحریکِ شہمی، تحریکِ پاکستان، تحریکِ ختمِ نبوت اور تحریکِ نظامِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور متعدد بار قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا رہ چکے ہیں نہ

حضرت پیر غلام قادر اشرفی دامت برکاتہم، اشرف الاولیاء اعلیٰ حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی کچھو چھوی رحمۃ اللہ علیہ زیب سجادہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمبانی قدس سرہ العزیز کے مریدِ خاص و خلیفہِ مجاز ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگوں کی محبت سے فیض یاب ہوئے ہیں، شیخ العرب و العجم حضرت قبلہ شیخ ضیاء الدین احمد قادری رضوی مہاجر مدنی مدظلہ العالی خلیفہ مجاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے۔

سلسلہ چشتیہ و قادریہ کے وظائف پڑھنے والوں پر حضرت پیر غلام قادر اشرفی مدظلہ کا یہ ایک احسانِ عظیم ہے کہ انہوں نے نہایت عمدہ طریق سے وظائف کا یہ مرقع چھپوایا ہے اور مزید کرم یہ کیا ہے کہ دعائے حیدری کے سوا دیگر تمام وظائف کی تلاوت کی اجازت بھی عطا فرمادی ہے نیز ہر وظیفہ کا طریق ادائے زکوٰۃ بھی تحریر فرمایا ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

گدلے غوث و معین  
محمد موسیٰ عفی عنہ، لاہور

۶ رجب المرجب ۱۳۹۹ھ

۱۔ حضرت مولانا پیر غلام قادر اشرفی کی سیاسی، دینی اور ملی خدمات سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے اکابر تحریکِ پاکستان، حلال، مرتبہ محمد صادق قصوی اور "تعارفِ علماء اہل سنت" دیکھئے نیز حضرت اشرفی سے جناب محمد صادق قصوی نے مفصل انٹرویو لیا ہے جو زیرِ طبع ہے۔

# مدینہ شکر و امتنان

ان مقبولین بارگاہِ صمدیت کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے بکمال  
ذرہ نوازی فقیر کو اوراد و وظائف کی اجازت سے نوازا، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ان کے فیضان  
کو تاقیام قیامت جاری و ساری رکھے اور اس بالآسانی ہمدردی کے نتیجے میں ان کے درجات بلند  
فرما کر اپنی نعمتوں سے نوازے، آمین بجاہ طہ و نیس و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین

حضرت سیدی و مرشدی شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی، کچھوچھو شریف

حضرت سیدی شیخ المشائخ مولانا ضحیاء الدین احمد قادری رضوی، مدینہ منورہ

حضرت سید شاہ قاری محمد سلیمان، پھلواری شریف

حضرت خواجہ شاہ محبوب اشرفی القادری، فیروز پور

حضرت غریب نواز خواجہ محمد حامد سلیمانی، تونسہ شریف

حضرت خواجہ محمد ضحیاء الدین، سیال شریف

حضرت خواجہ شاہ علی محمد خان چشتی نظامی فخری، بستی شریف

حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ، گولڑہ شریف

حضرت خواجہ پیر سید محمد اشرف شاہ قادری، سجادہ نشین دربار غوثیہ، لاہور

علم محترم حضرت میاں شہاب الدین چشتی، فریدکوٹ

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین)

## اوراد و وظائف پڑھنے کے آداب و اجازت

مکان، لباس، جسم پاک ہو اور با وضو ہو، ہو سکے تو خوشبو لگائے، قبلہ رو دروازہ بیٹھا اور ہمیت و جلالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت تعظیم و حیا سے آنکھیں جھکائے، بغایت توجہ اور حضورِ دل سے پڑھے اور قبولیت کی امید رکھے، صحتِ الفاظ و اعراب کا خیال رکھے، معافی سمجھے، کسی عارف باللہ سے اجازت لے، درودِ شریف کے پڑھنے میں ان تمام آداب کے ساتھ اگر حضورِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو چکی ہو تو آپ کی صورتِ پاک کا خیال کر کے کہ وہ سامنے موجود ہیں اور میرا صلوة و سلام سن رہے ہیں اور یہ یقین کر کے کہ واقعی ایسا ہی ہے، اور اگر یہ دولت میسر نہ آئی ہو، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو چکی ہو تو روضہ مبارک گنبدِ خضراء کا تصور دل میں جما کر بکمال تعظیم و تکریم اور ادب و حیا سے درودِ سلام پڑھے تو ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جلوہ فگن ہو جائے اور مناسبت صحیحہ پیدا ہوجانے کے بعد ان آنکھوں سے حضور کے دیدارِ فرحتِ آثار سے مشرف ہو سکے اور کبھی عرضِ معروض کا موقع بھی میسر آجائے۔

نیز یہ بھی واضح رہے کہ بعض درودِ شریف مختلف بزرگانِ دین سے منسوب ہیں مثلاً درودِ کبریتِ احمر شریف، درودِ اکسیرِ عظیم شریف (جو ان وظائف میں ہیں) حضورِ سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تالیف کئے ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت سیدی احمد رفاہی نے بھی اپنے ذوق و شوق سے درودِ رفاعیہ تالیف فرمایا۔ یہ درودِ شریف دو طرح کے ہیں، اول تو خود حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب یا بیداری میں بوقتِ زیارت، ان بزرگوں سے ارشاد فرمائے یا ان بزرگوں نے اپنے ذوق و شوقِ قلبی یا الہام سے خود تالیف فرمائے اور بوقتِ زیارت حضور کی خدمتِ اقدس میں پیش کئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکمال مسرت پسند فرما کر قبول فرمائے، ایسے درودِ شریف علامہ بہمانی علیہ الرحمہ نے اپنا تصنیف

سعادت الدارین شریف میں بے شمار لکھے ہیں، ایسے درود شریف پڑھنے سے ان بزرگانِ دین کی روحانیت بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔

## اجازت

فقیر حقیر خاکپائے درویشاں و گردنعلینِ خوب کیشاں، تمام برادرانِ اہل سنت کو ان اوراد و وظائف کی اجازت دیتا ہے اور پابندیِ آداب و ہدایات کی سخت تاکید کرتا ہے مگر دعائے حیدری شریف کی اجازت کے لئے کسی صاحبِ عمل بزرگ یا فقیر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

صورت از بے صورتی آمد بروں

باز حشد انا الینہ زانجوں

حضرت اشرف المشائخ (رحمۃ اللہ علیہ) کی یہ دلی آرزو تھی کہ وہ مجموعہ اوراد و وظائفِ چشتیہ قادریہ کو اپنی زندگی میں علیہ طبع سے آراستہ دیکھ لیں۔ وصال سے صرف دو روز قبل انہوں نے اپنی نگرانی میں تصحیح کا کام مکمل کروایا اور یکدم طبیعت زیادہ غلیل ہو گئی۔ بظاہر یہ عظیم کام ہمیشہ کے لیے معرض التوا میں پڑ گیا تھا، مگر حضرت اشرف المشائخ قدس سرہ کے سعادتمند بنیرگان خصوصاً حضرت صاحبزادہ ضیاء الحسن اشرفی زید مطلقہ سجادہ نشین درگاہ اشرف المشائخ (لالہ موہنے) نے توفیق ایزدی اس مقدس مجموعہ و وظائف کو زیورِ طباعت سے آراستہ کر دیا ہے۔ جزاہم اللہ تعالیٰ۔

زبیر احمد قادری ضیائی سجادہ نشین دربار حضرت امان گنج بخش علیہ السلام

۱۱ رمضان المبارک ۱۴۰۰ھ

## حرز بسم اللہ سیدنا غوث الاعظم

بسم اللہ شریف کی فضیلت محتاج بیان نہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت اور اہل اللہ حضرات کے معمولات میں شامل، یہ حرز شریف حضور محبوب سبحانی غوث میراں محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افاضات کبریٰ میں سے ہے حضور کے ارشاد فیض بنیاد کے مطابق اس کے پڑھنے کا طریق یہ ہے کہ پچھلی رات اٹھ کر طہارتِ کاملہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ۷۸۶ بار پڑھے اور سرکارِ ابد قرار جناب سیدنا احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم القدر یہ ۱۹۹ بار درود شریف پڑھے بعد یہ حرز شریف پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا مقام اولیاء اللہ میں لکھے اور مستجاب الدعوات ہو، اس کی ہر حاجت پوری ہو اور جنت میں جانے سے پہلے اس کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو اور اگر نصیبہ یا ورنہ ہو اور پچھلی رات کی بیداری میسر نہ ہو تو سنت و فرض نماز فجر کے درمیان پڑھے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو بعد نماز فجر پڑھنے کی موافقت کرے۔

## اسناد اسرارِ اعظم

سیدی شیخ بہار الدین خاکی رحمۃ اللہ علیہ نامور ادیب و کرام سے ہیں، آپ

خود فرماتے ہیں کہ میں سا لہا سال تک اسمِ اعظم کی تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا۔ ہر کتاب کا مطالعہ کیا، علمائے ظاہر سے ملا، علمائے باطن سے رابطہ قائم کیا مگر بے سود پھر ریاضت و مجاہدہ میں رات دن ایک کر دئے۔ تسخیر جنات و موتکلات کے لئے چلکشی کی سگر کامیابی نہ ہوئی آخر ایک دن بدول ہو کر لیٹ گیا، اس عالم میں حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ و افضل التسلیمات نے کرم فرمایا، مجھ مسکین کو نفل میں دیا، پیار کیا اور ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہئے، جو چاہتے ہو کر ہم سے مانگو، میں آمین کہتا ہوں۔ پس میں نے عرض کیا خداوند! کارسازا! بے نیازا! پروردگار! اپنی رفعت و جلالت کے صدقہ میں بجز سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مقصود میں کامیاب فرما۔

میں دعا کر رہا تھا، حضور آمین آئین فرما رہے تھے یہاں تک کہ میرا سینہ گرم ہو گیا، دل کی حرکت تیز ہو گئی، زبان میں شیرینی آگئی، دماغ معطر ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئیں، کھٹے کا حکم ہوا، میں نے لکھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو نورانی خط سے لکھا یہ کاغذ ہاتھ میں تھا اور اس میں یہ دس آیات تحریر تھیں جن میں یہ اسمِ اعظم ہیں۔

ان کا ورد کامیابی مقاصد اور روئے برادات کے لئے اکیر اعظم ہے۔

## فاتحہ الشریف

اس سورہ مبارکہ کے اس کی تاثیرات اور فضائل کے لحاظ سے کم و بیش بیس نام احادیث میں آتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو ریت وزبور اور انجیل میں اس کی مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک فرشتہ

آسمان سے نازل ہوا۔ حضور پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔

اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت، رحمت، مالکیت، استحقاق عبادت، توفیق خیر، بندوں کی ہدایت، توجہ الی اللہ، استخصاص عبادت، استعانت طلب رشد، آداب دعا، صالحین کے حال سے موافقت، گمراہوں سے اجتناب و نفرت، جہاد و سزا کا مصرح و مفصل بیان ہے۔

حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوقِ صحیح کے لحاظ سے اسما حسنی باری تعالیٰ اور ذات و صفات باری تعالیٰ سے توسل کے طریق پر اس طرح سے ان کو منضبط فرمایا کہ استجابت دعا بہترین وسیلہ جلیلہ غلاموں کے ہاتھ آگیا۔ سرکارِ غوثیت مآب کے معمولات سے اس کا ہونا ہی کامیابی دارین کا بہترین ذریعہ ہے، بعد نماز فجر سات مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو بہتر سے درجہ بلاناغہ ایک مرتبہ ضرور ہو۔

## سورہ یس شریف

اس سورہ مبارکہ کی آثار و احادیث صحیحہ میں بہت فضیلت آئی ہے، حضور علیا الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورت یس ہے، جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے، اس کو پورا قرآن مجید دس مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے (ترمذی، دارمی)

یہ سورہ مبارکہ بزرگانِ دین کے معمولات میں ہمیشہ رہی ہے اور بعض نے



اپنے ذوق کے لحاظ سے مختلف ترکیبوں سے اس کو طبعاً ہے اور بعض جگہوں پر کچھ کلمات کا اضافہ بھی کیا ہے چنانچہ ایک جامع ترکیب سورہ کے حاشیہ پر درج ہے اس کے مطابق بعد نماز فجر ایک مرتبہ پڑھنا جملہ مقاصد و مرادات دلی کے لئے اکیر ہے اور کثرتِ رزق کے لئے خاص طور پر مؤثر۔

## اورادِ فتحیہ

مجموع کلمات منبج حسانت مورد الطاف سبحانی میر کبیر سید علی بہدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری علوم سے فراغت پا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق حضرت محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے شیخ کریم نے سلسلہ عالیہ میں داخل فرمایا اور ایک مدت تک خانقاہ کی صفائی، پاسبانی، مطبخ اور درویشوں کی خدمت اور سخت سے سخت ریاضات و مجاہدات میں اعتقاست و استقلال دیکھ کر نعمار باطنیہ اور توجہات روحانیہ سے سرفراز فرمایا، پھر سیاحت کا حکم دیا، آپ قریہ بہ قریہ، شہر بہ شہر بندگانِ خدا کو فیض پہنچاتے اور بزرگانِ دین سے استفادہ فرماتے رہے اور اس عرصہ میں ایک ہزار چار سو اولیاء اللہ سے نعمت پائی اور جو اوراد پائے انہیں جمع کر کے اپنا معمول بنایا۔ حرمین شریفین کے سفر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مجموعہ اوراد مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا خذْ هَذِهِ الْفَتْحِيَّةَ آپ نے اس ارشاد فیض بنیاد کے لحاظ سے اس کا نام اورادِ فتحیہ رکھا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بعد نماز فجر حلقہ بنا کر باواز بلند پڑھنے کا ارشاد فرمایا، بزرگانِ دین کا تجربہ ہے کہ تمام اوراد و وظائف سے یہ زیادہ مؤثر ہے۔

اس کے پڑھنے کی بارہ شرطیں ہیں :-  
 چھ داخل : پاکی نفس ، استغفار کجاں بجز ، تسبیح و تحمید ، تکبیر ، تسبیح ، تسلیت ، تسلیت  
 چھ خارج : خوش آواز سے پڑھے ، معافی کو سمجھے ، بجز و نیاز سے پڑھے ،  
 مگر کسی لوگ پڑھیں تو حلقہ گول بنا کر پڑھیں ، اسما الحسنیٰ سر جھکا  
 پڑھیں ، ہر درود شریف اور صلوة و سلام میں حضور کے اسم گرامی  
 کے ساتھ لفظ ”سیدنا و سیدی“ بحسب قدر اضافہ کریں  
 شروع کرنے سے پہلے تین دفعہ درود شریف ، ایک دفعہ سورہ فاتحہ ،  
 تین بار سورہ اخلاص پھر تین بار درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام کے وسیلہ جلیلیہ سے حضرت سیدنا جنید بغدادی ، حضور سیدنا غوث پاک  
 اور امیر کبیر سیدنا علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح کو پہنچائے ۔

## مبشرات عشر

وظیفہ مبشرات عشر خاندانِ پشت اہل بہشت اور خاندانِ عالیشان قادریہ  
 کے معمولات میں سے ہے ، یہ وظیفہ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے  
 حضور سے تعلیم پا کر حضرت ابراہیم تمیمی علیہ الرحمۃ کو تعلیم فرمایا اور تاکید کی کہ صبح و شام  
 قبل طلوع و قبل مغرب آفتاب پڑھا کریں ، اس کا ثواب عظیم اور فوائد کثیر ہیں خصوصاً  
 شتر اعداد سے حفاظت ، مقہوری اعداد اور زبردستوں کی زیادتیوں سے محفوظ و  
 مصئون رہنے کے لئے بہت ہی مجرب ہے یہاں تک کہ نفس کے فریب اور  
 شر شیطان سے بھی حفاظت رہتی ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادو  
 کا اثر نہیں ہوتا ۔

## اسما سابعہ

حضور سیدنا غوث الاعظم میراں محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہمیشہ ورد فرماتے تھے اور آپ نے ہر اسم کیلئے ایک توجہ بتائی جو کہ سو مرتبہ یا پانچ سو مرتبہ اسم پڑھنے کے بعد طبعی جاتی ہے، ان کی برکات ظاہر ہیں، ہر ایک اسم ایک لاکھ مرتبہ پڑھے اور حسب قاعدہ ساتھ ساتھ توجہ بھی پڑھتا جائے۔

اس کی زکوٰۃ دریا کے کنارے، قطع حلائق کے ساتھ نرک حیوانات جلالی و جمالی کر کے ادا کرے، ہر روز ایک اسم ۱۶۶۶۶ بار چھ دن تک اور ساتویں روز ۱۶۶ بار پڑھے اور انچاس دن میں اسما سابعہ مکمل کرے، تمام زکوٰۃ میں روزہ ضروری ہے بعد بعد نماز فجر بہتر ہے کہ بعد تہجد ہر اسم گیارہ سو بار اور دو مرتبہ توجہ پڑھنے کا معمول بنائے۔

## اسما راحمۃ

قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ **وَاللّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا** یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان سے اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل بیکراں ہے کہ اس نے اپنے عاجز بندوں کو اپنے پیارے اسماء کے وسیلہ سے حاجات طلب کرنے کا حکم دیا اس لئے کہ یہ اسماء الحسنیٰ ان کے ہر درد کا درماں، ان کی ہر مصیبت کا علاج، ان کی ہر مرض کی شفا ہیں۔

یہ اسماء الحسنیٰ حرز ہیں، تعویذ ہیں، ہیکل ہیں۔ یہی اسماء خالق کائنات کے جلال و جمال کے مظاہر ہیں، امنی ہیں خدا کی ذات و صفات، شان و کرم و قہر و عتاب کی جلوہ آرائیاں ہیں، ان کی برکت سے ہر روگ دور ہو سکتا ہے، ہر آفت ٹل سکتی ہے ہر دکھ سے نجات مل سکتی ہے اور ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے۔

خاتق کائنات کے ان اسماء مبارکہ کا ورد ہر زمانے میں مقبولانِ بارگاہِ صمدیت کے معمولات میں رہا ہے چنانچہ حضور سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء مبارکہ کو مع توجہات اپنے معمولات میں رکھا اور وابستگانِ دامن کو اس ورد کی تعلیم فرمائی۔ حضرت بہار الدین غاکی علیہ الرحمہ نے عشرہ اسماءِ اعظم کا ورد کیا، اولیائے کبار نے اسماء کو اپنا معمول بنایا نیز ضحیکہ ہر زمان میں یہ کاملین کا ورد رہا ہے۔ تفصیل کے لئے جواہر خمسہ شاہ محمد غوث گوالیاری مطالعہ فرمائیں۔

اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں :

۱ : هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ الرَّحِيمُ  
جَلَّ جَلَالُهُ آخِرُكُ

۲ : يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ آخِرُكُ

۳ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ - الخ

## دعا کے کبیر

یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحیفِ آدم علیہ السلام کے علاوہ

توریت و صحیفِ سیدنا ابراہیم سے بھی منقول ہے۔

حق تعالیٰ نے حضرت آدم صغی اللہ کو سب اسماءِ الہی اور سب اسماءِ

کوئی سے آگاہ کیا تھا۔ ہر اسم کے مفہوم و معانی اور خصائص و تاثیرات سے بھی

مطلع فرمایا تھا جس پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا شَاهِدٌ ہے۔

اکثر انبیاء و اولیاء کرام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، حضرت غوثِ صمدانی،

محبوبِ سبحانی حضرت میرزا محمد الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

اس دعا کی اسناد بہت کچھ فرمائی ہیں۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس دعا کو اسناد کے ساتھ مقید نہ کرنا چاہئے بلکہ حسن نیت سے جو کوئی بھی پڑھے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی۔

طریق دعوت یہ ہے کہ بہ نیت ادائے حاجات عروج ماہ روز پنجشنبہ وقت طلوع آفتاب دعوت شروع کرے اور مقصد پورا ہونے تک اکتالیس بار روزانہ پڑھے، اللہ کی عنایت سے مستجاب ہو۔

## اوراد الاسبوع

یہ سات دن کے الگ الگ اوراد ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم میراں محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افادات عالیہ سے ہیں، کم و بیش ہزار سال سے تمام مشائخ کرام اولیاء عظام سلاسل عالیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے معمولات سے ہیں، ان کے ورد سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ انسان انوار و تجلیات النبیہ کا مورد بن جاتا ہے، مستجاب الدعوات ہو کر مقبول بارگاہ وحدیت کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے، علم الیقین سے حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت سے خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔

## طریق ادائیگی زکوٰۃ درود مستغاث

درود مستغاث شریف کی زکوٰۃ کا طریق یہ ہے کہ عروج ماہ میں بدھ کے روز صبح شروع کرے اور ایک مرتبہ پڑھے، دوسرے روز جمعرات کو دو مرتبہ

تیسرے روز تین مرتبہ، علیٰ ہذا القیاس گیارہ ہویں روز گیارہ مرتبہ مگر بارہ ہویں روز  
 دس مرتبہ اور تیر ہویں روز نو مرتبہ علیٰ ہذا القیاس ایک کم کرتے جائیں یہاں تک  
 کہ اکیسویں روز ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی، پھر حسب  
 ہدایت سابقہ روزانہ ایک مرتبہ بطور وظیفہ پڑھا کریں مگر ایام زکوٰۃ میں روزہ رکھیں  
 اور اشیائے جلالی مثل گوشت، پیاز وغیرہ اور جماع سے پرہیز لازمی ہے اور  
 اپنے ارد گرد خوشبو رکھیں، کپڑے صاف اور سفید ہوں، پڑھنے کی جگہ مقرر ہو، زکوٰۃ  
 کے بعد کھانا مساکین کو کھلائیں اور اس کا ثواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ  
 بیکس پناہ میں پیش کر کے تمام بزرگان خاندان چشت اہل بہشت کو پہنچائیں اور  
 اپنے لئے دعا مانگیں روزہ، لباس کی خصوصیت، جگہ کا تقرر اور ترک جلالی زکوٰۃ  
 کے ایام میں ہے، پھر نہیں۔

## اسناد و ذکریتِ احمر شریف

درود کبریتِ احمر شریف ایسا وظیفہ ہے جس کا ورد دن رات لاکھوں مرتبہ  
 ہوتا ہے اور اس کی برکات سے ایک عالم مستفید ہو رہا ہے جس نے بھی  
 جب کبھی مقررہ آداب سے یہ درود پڑھا اس کے دین و دنیا کے مقاصد حل ہوئے  
 اسی شہرت سے اس کا نام کبریتِ احمر مشہور ہو گیا۔

جس طرح سرخ گندھک کو کیمیاوی طریق سے تانبے پر ڈالنے سے  
 سونا بن جاتا ہے اسی طرح جو شخص اس کا ورد کرے اس کا وجود سونا ہو جاتا ہے  
 جس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اس درود پاک کا ہر لفظ الہامی ہے جس طرح  
 خدائے پاک نے سورہ فاستح میں حمد و دعا کی تعلیم دی اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ و

السلام پر درود بھیجنے کے کلمات کا حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام فرمایا پس جس طرح حضور سیدنا غوث الاعظم تمام اولیاء اللہ سے اعلیٰ میں اسی طرح اس درود شریف کا وظیفہ دوسرے اور اسے افضل ہے۔

مشہور طریق اس کے پڑھنے کا یہ ہے کہ پہلے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْجَلَالِ وَالْجَبَالِ مِرَاتِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ مَنِيْعِ الشَّاهِدَاتِ وَمَعْدِنِ التَّجَلِيَّاتِ مُوَصِّلِ الْعِبَادِ اِلَى رَبِّ الْاَمْرِ بَابٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُوْمَاتٍ لَكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَبَدًا ، سورہ اخلاص ۱۱ بار ، درود مذکورہ ایک بار ۔

قبل از فجر ۱۱ بار یا بعد نماز فجر علی الدوام بلاناغہ ایک فقرہ پڑھے۔

## طریق اداۓ زکوٰۃ

یہ درود حصول مرادات، مقصودی دشمن، حسن خاتمہ، ازالہ امر من، کامیابی دارین یعنی جملہ مطالب کے حصول کے لئے مجرب ہے۔ ازالہ مرض کے لئے تین سے سات مرتبہ تک پڑھ کر ہر مرتبہ پانی پر دم کرے اور مرین کو پلائے۔  
طریقہ زکوٰۃ، اول : درود کبریت احمر کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ سواک و وضو کے بعد غسل کرے، پانچ ہاتھ کا عامہ سفید سر پہ باندھے، سفید تہ بند اور سفید چادر اوپر اوڑھے، تین ہاتھ لمبا کپڑے کا جائے نماز لے، یہ سب کپڑے غیر مستعمل ہوں اور سب سے الگ مکان میں نصف شعبان کے بعد کسی روز دن کے وقت شروع کرے اور آخر رمضان شریف تک اکتالیس دن پڑھے۔ ان

85237

ایام میں روزہ ضروری ہے، ہر روز شروع کرنے سے پہلے تہیۃ الوضو کی دو رکعت اس ترکیب سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین بار پڑھے، سلام کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص سات بار اور دو تشریف تین بار پڑھ کر اس کا ثواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام، تمام صحابہ، بزرگان دین، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح کو ایصال کرے۔ اس کے بعد بحضور نبوی بنیت محبت الہی درود کبریت احمد و زانہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھا کرے اور آخر رمضان شریف تک اکتالیس دن پورے کرے۔

پڑھتے وقت تین مقامات پر سجدہ کریں۔

محل اول بعد از کلمہ صلوٰۃ تملأ الارض والسماء پر سجدہ کرے اور سجدہ میں آگے کی یہ دعا صلوٰۃ تستجیب بہا دعانا و تنزیکی ہا نفوسنا و تحیی بہا قلوبنا۔

محل دوم : وتحل بہا العقد و تفرج بہا الکرب پر سجدہ کرے۔

محل سوم : و یجری بہا لطفک فی امری و امور المسلمین پر سجدہ کرے۔

اس ترکیب سے ہر روز گیارہ مرتبہ درود شریف کبریت احمد پڑھیں اور ختم کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ اے اللہ العالمین اس درود پاک کی برکت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عشق و محبت اور پیروی نصیب فرما، فراغت کے بعد کپڑے اتار کر بجاغت اسے مکان میں رکھے تاکہ پھر دوسرے دن کام آئیں، ایام زکوٰۃ میں اشیاء جلالی گوشت، مچھلی، پیاز وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کریں، اور



زکوٰۃ کے بعد کسی قسم کی شیرینی مسکین کو تقسیم کر دیں۔

زکوٰۃ دوم مع شرائط مذکورہ آئندہ سال اسی طرح شعبان اور رمضان شریف میں اکتالیس دن بطریق مذکورہ ادا کرے اور اس میں اکیس مرتبہ روزانہ پڑھا کریں اکتالیس دن تک۔

زکوٰۃ سوم بھی مع شرائط مذکورہ اس سے آئندہ سال بطریق مذکورہ ایوم تک اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔

## اسناد درود اکسیر اعظم شریف

یہ درود پاک فضائل حاجات و حصول مرادات ظاہری و باطنی کا کفیل اور نورانیت قلب قصفیہ باطن کا ضامن جیل اور میں قلب کیلئے مثل اکسیر ہے، تالیف نسیف حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غیس دردمنداں چارہ بیچارگان حضرت نبوت الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ کلام مبارک حکم و لطائف کا گنجینہ اور اسرار الہی کا خزینہ ہے، حضور نے ایک سو ایک درود شریف تصنیف فرمائے ہیں اور ہر درود شریف ایک الگ خاصیت اور علیحدہ نورانیت رکھتا ہے۔

شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا ورد فرمایا اور اکثر اہل اللہ حضرات و مشائخ عظام نے اس کے ورد سے بے شمار ظاہری و باطنی فیوض و برکات حاصل فرمائے اور اس کو اکسیر اعظم اسم ہمسٹی پایا۔ یہ بارگاہ حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ اور بارگاہ صمدیت کی خوشنودی و ضمانندی اور قرب حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے، خاندان قادریہ کے معمولات میں شامل

ہے اور چشتیہ قادریہ سلسلہ کا یہ اہم ترین وظیفہ ہے۔ اگر قوت یاوری کرے تو بعد نماز فجر، ظہر، عشاء تین تین مرتبہ پڑھ لیا جایا کرے ورنہ بعد فجر ایک مرتبہ ضرور معمول رہے۔

قبل از نماز صبح صلوٰۃ التبیح کے بعد تین مرتبہ پڑھنے، بہت فائدہ مند ہے۔

## اسناد صلوٰۃ الوصال

حضرت سیدی محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور نے بجمال عنایت فرمایا کہ جو اس درود وصال کو بشوق اپنا درو بنائے گا، نفع عظیم سے محروم نہ رہے گا۔ جب بیدار ہوئے تو تمام الفاظ درود شریف یاد تھے انہیں تحریر فرمایا تاکہ تمام طالبانِ حق اس کے در سے مستفیذ و مستفیض ہوں۔ اگر یہ درود شریف شب جمعہ کو یا دوشنبہ کو پڑھا کر سفید لباس پہن کر اکتالیس بار پڑھے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار فیض آنا سے مستفیض ہو، اگر پہلی رات کامیابی نہ ہو تو تین شب کرے، ضرور کامیاب ہوگا، قضائے حاجات و حصولِ مرادات کے لئے پندرہ بار روزانہ بعد فجر پڑھے، دوشنبہ سے شروع کرے، آئندہ دوشنبہ تک انشاء اللہ العزیز مراد حاصل ہو۔

## اسناد صلوٰۃ سید احمد کبیر فاضل رحمۃ اللہ علیہ

سید احمد کبیر رضی اللہ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی ولایت مسلمہ ہے اور محدثین و مفسرین، اولیاء و صلحاء و فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس درود شریف کے پڑھنے سے وہ انوار و اسرار حاصل ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت سوائے

اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، صدق و اخلاص سے ہمیشہ پڑھنے والے کا  
شرح صدہ ہو جاتا ہے۔

نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد تین تین مرتبہ پڑھنے والا ہمیشہ آفات و  
بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات ان کے شامل  
میں رہتی ہیں اور وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آجاتا ہے۔

## صلوة التامیہ

یہ درود شریف فخر المشائخ قطب زمان حضرت خواجہ سیدنا فخر الاسلام  
والحق والملة والطريقة والدين محب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فخر الدين بھوی  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تالیف نسیف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ و  
مقبول ہے لہذا اس کا ورد بے شمار بركات و فیوضات کا موجب ہے، بعد نماز  
فجر پانچ مرتبہ یا کم از کم ایک مرتبہ بلا تاخیر پڑھنے کا معمول بنانے والا ہر طرح کے فیضان  
سے مستفید و مستفیض ہوگا، خوش اعتقادی شرط ہے۔

## اسناد دعا مولس اولیاء

اس دعا کو حرز مولس اولیاء بھی کہتے ہیں کہ اکثر کاملین نے اسے اپنے  
معمولات میں شامل فرمایا اور اس پر مداومت و مواظبت فرمائی ہے۔

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے  
روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعد نماز فرض جو اس  
دعا کو پڑھے اس کی دینی و دنیوی تمام حاجات روا ہوں، اگر محتاج پڑھے تو تو نگر ہوگا

بیمار پڑھے شفا پائے، غمزدہ پڑھے شاد ہو جائے، مسافر پڑھے بخیر و عافیت  
اپنی منزل پر پہنچے۔ پڑھنے والا شرِ شیطان اور ایذائے دشمنان سے محفوظ رہے،  
اگر بد بخت پڑھے نیک بخت ہو جائے۔ اگر اکتالیس بار شب جمعہ میں پڑھے  
زیارت سرِ ایا سعادت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیذ  
مستفیض ہو۔

اس دعا کا حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمامہ پر، حضرت نوح  
کی کشتی پر، حضرت عیسیٰ کے مہد میں، حضرت سلیمان کی خاتم پر اور حضور علیہ الصلوٰۃ  
والسلام کی مہرِ نبوت پر، حضرت مولائے کائنات کی ذوالفقار کے قبضہ پر لکھا  
ہوا ثابت ہوتا ہے۔

جب کوئی خاص مشکل پیش آئے تو غسل کر کے بہ طہارتِ کاملہ دو  
نفل پڑھے بعد ستر مرتبہ یہ حمد پڑھے، اول آخر درود شریف سترہ مرتبہ شاد کام  
ہو، بطورِ روہ و بعد فجر کم از کم تین بار پڑھ لیا کرے۔

## اسناد و فضائل دعائے کیمیائے سعادت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دعائے کیمیائے سعادت  
سات بار بعد عشر پڑھے، حق تعالیٰ کے کرم سے عجائب و غرائب دیکھے، حضرت  
میکائیل علیہ السلام سے ہے کہ جو ہر روز اس دعا کو پچاس بار پڑھے وہ اعلیٰ  
مرتبہ پائے۔

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دعا  
کو پچاس بار پڑھنے والا حق تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا اگرچہ کسی حال میں

ہو اور صاحب کشف ہوگا۔

عورت اس دعا کو گلے میں پہنے، اسقاطِ حمل سے محفوظ رہے، سہ ماہ  
عاطہ کو اگر قند سیاہ پر یہ دعا پڑھ کر کھلائی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و  
کرم سے اولاد نرینہ پیدا ہو۔

حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے  
کہ اگر کوئی عورت برسوں سے بانچھ ہو تو اسے پندرہ روز تک تڑپاری پر یہ  
دعا تین بار پڑھ کر کھلائی جائے، عقیمہ عورت انشاء اللہ ضرور اولاد والی ہوگی  
اور خدا کے فضل و کرم سے لڑکا ہوگا اور اگر نہ ہو تو کل قیامت کو میرا دامن  
اور اس کا ہاتھ ہوگا۔

حضرت سیدنا خواجہ محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ ناموافقیت  
زوجین کے لئے پندرہ مرتبہ یہ دعا شیرینی پر پڑھ کر کھلائی جائے تو زوجین  
میں خدا چاہے موافقت ہو جائے گی۔

## چہل اسماء

چہل اسماء کی سب سے آسان یہ دعوت ہے سوائے مرشد کی اجازت  
اور کوئی شرط نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لئے اس دعوت کو  
سزلیح الاجابت مقرر فرمایا ہے جو طالب صادق دعوت مجموعہ خمیسہ ادا کرے  
تو اسے چاہے کہ کوئی گوشہ اختیار کرے یا حجرہ یا کنارہ آب یا باغ یا کوہ یا غار معکوس  
میں دعوت دے اگر ان میں سے کوئی جگہ میسر نہ ہو تو کسی خالی گھر میں ادھی رات  
کو حضورِ می دل کے ساتھ ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے جتنے دنوں میں چاہے پورا کرے

اس کے بعد مقنورہ دشمن کے لئے دو بار، اہمات کے لئے تین بار، خلاصی محبوبس کے لئے چھ بار اور غائب کے آنے کے لئے سات بار، رہزنیوں کے دفعیہ کے لئے آٹھ بار اور خلائق کے دلوں میں محبت ہونے کے لئے نو بار پڑھے، خدا چاہے تمام حاجتیں روا ہو سکی۔

اگر ہر روز بعد نماز فجر موافق دوازده برج بارہ بار اور بعد نماز عصر موافق خمسہ متحیرہ پانچ بار پڑھا کرے تو تصرف اسما عظیمہ زیادہ اور اسم کی رجعت سے محفوظ رہے۔

اگر کوئی شخص کچھ بھی ذکر و فکر نہیں رکھتا تو اسے لازم ہے کہ اکتالیس روز تک مجموعہ عظیم کو بوقت شب بلا ناغہ پڑھا کرے، خدا چاہے تصرف ظاہری و باطنی اسے نصیب ہو لیکن سند دعوت خمسہ ضرور معلوم کرے۔

• اگر صاحب حاجت کو شنبہ کے دن کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے حصول کے لئے سب خدا سے یا حتیٰ ۵۰ تک پانسو بار پڑھے۔

• اگر کھشنبہ کو کوئی حاجت پیش آئے تو یا قیوم سے یا باستر سے ۵۰ تک پانسو بار پڑھے۔

• اگر دو شنبہ کو کوئی حاجت پیش آئے تو یا کبیر سے یا تقی سے ۵۰ تک پانسو بار پڑھے۔

• اگر شنبہ کو کوئی حاجت پیش آئے تو یا حنان سے یا رحیم سے ۵۰ تک پانسو بار پڑھے۔

• اگر چہار شنبہ کو کوئی حاجت پیش آئے تو یا تام سے یا معید سے ۵۰ تک پانسو بار پڑھے۔

• اگر پنجشنبہ کو کوئی ضرورت درپیش ہو تو یا حمید ۱۱۱ سے  
یا مذل ۱۱۱ تک پانسو بار پڑھے۔

• اگر جمعہ کو کوئی ضرورت درپیش ہو تو یا نور ۱۱۱ سے یا جلیل ۱۱۱  
تک پانسو بار پڑھے۔

• اگر کسی شب کو کوئی حاجت پیش آئے تو یا محمود ۱۱۱ سے  
یا غیاثی ۱۱۱ تک پانسو بار پڑھے۔

نوٹ :- بہ نیت ادا کئے شرائط مجموعہ ایک ہزار اکتالیس بار جس میں  
تک پورا کرے۔ اور بعض مشائخ یوں فرماتے ہیں کہ بہ نیت ادا کئے شرائط مجموعہ  
عشرہ اخیرہ ماہ شعبان سے آخر ماہ رمضان تک مع شرائط خلوت ہر روز ایک اسم  
ایک ہزار بار پڑھے، اگر اسی مدت میں دو ایک اسم باقی رہ جائیں تو ان کو آخری  
روز پورا کرے۔ شرائط کے ادا کرنے کے بعد تین یا سات یا نو یا بارہ یا چالیس  
روز تک بعد کبیر (۲۳۲ مرتبہ) اپنی حاجات کے لئے صبح صادق و مغرب کے  
درمیان مع غنم و افتام پڑھے، حاجتیں روا ہوں گی۔  
اعتصام و اختتام ساتھ درج ہے۔

## اسناد طریق زکوٰۃ دعائے مغنی شریف

بہ نیت ادا کئے تھے لفظ ایک ہزار ایک بار ایسی جگہ کہ جہاں قاری کے سر پر آسمان کے درمیان کوئی شے عائل نہ ہو، تنگے سر جب تک ممکن ہو سکے، پڑھے اور یہ تعداد پوری کرے، ان ایام میں ترک حیوانات جلالی و جمالی ضروری ہے۔

شروع کرنے سے پہلے طہارت کا طہ اور غسل کے بعد خوشبو لگائے، بخور جلانے، سفید لباس پہننے، دو گانہ نفل ادا کرے اور دونوں رکعتوں میں بعد الحمد اذاجار نصر اللہ، ستر بار پڑھے، بعد سلام سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كَرْبٍ وَمَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَمُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ وَمُؤَسِّئِي عِنْدَ كُلِّ وَحْشَةٍ وَيَا سَاجِدِي حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي يَا غِيَاثِي سَاتِ بَارِ، بعدہ سر پر بہنہ کر کے دعائے مذکورہ شروع کرے تعداد پوری کرنے کے بعد ہر روز بعد فجر گیارہ مرتبہ پڑھے یا بعد فجر دو بار بعد ظہر دو بار بعد عصر دو بار بعد مغرب دو بار اور بعد عشاء تین بار پڑھے۔ یہ اکیر اعظم ہے، فوائد بے شمار ہیں۔

حضرت خواجہ اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا ورد کرنے والا مرتبہ کمال اور ایمان کامل کو پہنچتا ہے اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے



شفاعت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشرف ہو اور بعد ہر فریضہ کے ورد کے  
جلد غنی ہو، جو شخص تین بار یا سات بار روزانہ چالیس دن تک متواتر پڑھے، غنا  
دارین حاصل ہو۔

## اسنادِ قصیدہِ غوثیہ و طریقِ زکوٰۃ

یہ قصیدہ مبارکہ حضور قطب ربانی غوثِ محمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر  
جیلانی قدس سرہ کی طرف منسوب ہے، آنحضرت نے اسے حالتِ جذب و استغراق  
میں منظم فرمایا خواص اس کے بہت ہیں، مختصر یہ کہ :

۱ : جو شخص گیارہ بار روزانہ پڑھنے پر مداومت کرے گا خدا تعالیٰ کے نزدیک  
مقبول اور خلق کے نزدیک محبوب ہوگا۔

۲ : پڑھنے والے کی قوتِ حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے اور مرضِ نسیان جاتا رہتا  
ہے۔

۳ : اگر ضرورت مند کسی حاجت کے لئے چالیس روز پڑھے گا حاجت  
انشاء اللہ روا ہوگی۔

شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ الحمد شریف سورہ اخلاص تین بار ورد  
شریف پڑھ کر حضور کی روح پر فتوح کو ایصالِ ثواب کرے، ورد شریف قادر  
تین مرتبہ پڑھ کر شروع کرے :

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرِيمِ وَبَارِكْ  
وَسَلِّمْ۔

طریق ادا تے زکوٰۃ : ان ایام میں روزہ و اعتکاف لازمی ہے۔ زکوٰۃ تین طرح پر دی جاتی ہے اصغر، صغیر، کبیر۔

اصغر : شرائط کے ساتھ گیارہ دن تک گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھے۔

صغیر : بہ پابندی شرائط اکیس دن تک ۲۱ مرتبہ روزانہ پڑھے۔

کبیر : بہ پابندی شرائط اکتالیس دن تک ۴۱ مرتبہ روزانہ پڑھے۔

ان ایام میں نان جویں بہ نمک لاہوری سحری و افطاری میں استعمال کرے، آٹا اپنے ہاتھ سے گونا گہ کر چکائے۔

لباس خاص ہو، سفید ہو، سُوتی ہو۔ پڑھنے سے پہلے اپنے گرد حصار کر لے جس کی ترکیب یہ ہے :

درود شریف، سورہ فاتحہ، آیتہ الکرسی، سورہ قل یا ایہا الکافرون ایک ایک بار، سورہ اخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، کلمہ تجید، تین تین بار۔ درود شریف ایک بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کی ساتھ والی انگلیوں پر دم کرے اور آگے سے پیچھے تک دونوں انگلیوں سے حصار کرے۔

قصیدہ شریف پڑھنے کے وقت اول آخر گیارہ بار یہ درود شریف پڑھے :

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
مُظَهَّرِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ مِرْآةِ الذَّاتِ وَالصِّمَاتِ  
مَنْبِئِ السُّنَّاهِدَاتِ وَمَعْدِنِ التَّجَلِّيَّاتِ مُوَصِّلِ

الْعِبَادِ إِلَى سَرِّ الْأَسْرَابِ بِعَدْرِ كُلِّ مَعْلُومَاتٍ  
لَكَ وَبَارِكُ وَ سَلِّمْ -

بعد نماز فجر ایک یا تین بار پڑھنے پر موافقت کرے

نافذ نہ کرے، خاص ضرورت کے موقع پر گیارہ بار پڑھے اور ان آیات کو تین

تین بار پڑھے :

۱ : مَرِيْدِي لَا تَخْفِ وَأَشْفَانِي الْخ

۱۲ : كُلِّ وَحَلِّ لِقَدَمِ وَأَنِي الْخ

۳ : مَرِيْدِي لَا تَخْفِ اللَّهُ سَرِي الْخ

۴ : أَنَا الْجَمِيْلِي هِيَ الدِّينِ اسْمِي الْخ

۵ : وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ الْخ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

حضرت میراں محی الدین عبدالقادر جیلانی کہ بزبان خود

حضرت میراں محی الدین عبدالقادر جیلانی کہ خود اپنی زبانی

فرمودہ اند کہ ہر کہ میں استغفار روزمرہ بے ناغہ در زندگی

فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ استغفار روزانہ بلا ناغہ اپنی زندگی

خود بخواند البتہ صاحب عرفان گردو جائے خود در

میں پڑھے گا تو لازمی طور پر صاحب عرفان ہو جائیگا اور اپنی جنت میں جگہ

بہشت بہ بیند و پیشانی اور روشن و تاباں باشد کہ

دیکھے گا اور اس کی پیشانی روشن اور منور ہو جائیگی کہ

نشانی ایمان ہمیں است اگر ایمان نرود و در زندگی جائے خود در بہشت

یہ ایمان کی نشانی ہے، اگر وہ ایمان پر نہ جائے اور اپنی زندگی میں جنت میں اپنا

نہ بیند فردائے قیامت دامن من در چنگل او باشد۔

مقام نہ دیکھے تو گل قیامت کے دن میرا دامن اس کی گرفت میں ہوگا۔

تحفة الراغبین: حضرت شہید عبدالعزیز جیلانی، احمد آباد

(گجرات)

# استغفارِ غوثیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے

الہی از من ہیچکارہ گناہے یا خطائے یا کفرے

اے اللہ مجھ ناکارہ سے جو گناہ یا خطا یا کفر

یا کلمہ کفرے یا شرکے یا ریائے یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ

یا کلمہ کفر یا شرک یا ریا یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ

یا نمیمہ یا زنائے یا غیبے یا طبیعتے یا فحشے یا بہتانے

یا چغلی یا زنا یا چغلی یا خوش طبعی یا فحش یا بہتان

یا دروغے یا لغوے یا لموئے یا حسدے یا حرصے یا بعبے یا

یا بھوٹ یا لغو یا لہو یا حسد یا حرص یا تعجب یا

کبرے یا نفاقے یا نائے حقے یا حدفے یا حرامے یا

تکبر یا نفاق یا نائق یا حسد یا حرام یا

ناراست پیامے یا کراہتے یا بد طبیعتے یا معصیتے یا

نازیبا بات یا کراہت یا بد فطرتی یا گنہ گاری یا

نادانئے یا تحریمتے یا تلخیہ یا تجمیہ یا تعبیہ یا تغیبہ یا ترک

تادانی یا امر حرام یا تلخ کلامی یا جھڑک یا رنج دینا یا تمکین کرنا یا ترک

امانتے یا دیانتے یا خیانتے یا ظلمے یا تعدے در

امانت یا دیانتداری یا خیانت یا ظلم یا زیادتی

حق آدمے یا جانورے یا ترکِ حق استادے یا پیرے

حق آدمی یا جانور میں یا ناقص شناسی استاد یا پیر کی

یا مادرے یا پدرے یا خیر رسول اللہ سے شاید

یا ماں یا باپ یا حدیث رسول اللہ کی

یا فسقے یا فجورے یا بدے یا ناکردنے یا غفلتے

یا فسق یا فجور یا بدی یا ناکردنی یا غفلت

یا تقصیرے یا آنچه غیر فرمانِ شریعت عمداً فراموشی کردہ

یا کوتاہی یا جو کچھ فرمانِ شریعت میں جان بوجھ کر بھول ہوئی

یا شتم یا در خاطر گزشتہ یا بر زبان رفتہ باشد قولاً

یا دل میں گزری یا زبان پر آئی ہو قول

و فعلاً و حاضرًا و ناظرًا ظاہرًا و باطنًا سِرًّا و نہارًا

اور فعل اور حاضرًا اور ناظرًا ظاہرًا اور باطنًا رات اور دن

سِرًّا و جہرًا بدانتگی یا ندانتگی کردہ یا شتم اذال

خفیہ یا علانیہ دانستہ یا نادانستہ میں نے کئے ان

جملہ گناہاں باز آدم و مسلمان شدم و تائب گشتم و توبہ

تمام گناہوں سے میں باز آیا اور مسلمان ہوا اور توبہ کی اور توبہ

نصوحاً از تو طلب کے کف تا بار دیگر از و برہانی و مانند

خالص تجھ سے طلب کرتا ہوں تاکہ دوسری مرتبہ از تکاب جرم نہ ہو اور

ایں در وجود من نسیاید و جملہ ناکردنیہا نہ کفم از سر

یہ امور دوبارہ میرے وجود میں نہ آئیں اور تمام نہ کر نیوالے کام نہ کروں البتہ

تجدید مسلمان شہم اَشْهَدَانُ لَا إِلَهَ إِلَّا

مسلمان ہوتا ہوں گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

معبود نہیں، ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ وَأَنْجِي

ہمارے سردار محمد اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں اور جو کچھ

حق تعالیٰ فرمودہ است ازاں چیز ایمان آوردم و

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر ایمان لاتا ہوں اور

ہر آنچہ ایمان آوردہ است محمد رسول اللہ صلی اللہ

پر وہ چیز جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

علیہ وآلہ وسلم و بیزادم از آنچہ محمد رسول اللہ بیزا

آلہ وسلم ایمان لائے اور ہر اس چیز سے بیزار ہوں جس سے محمد رسول اللہ

است و دور بودہ است یعنی از سر صدق کے گویم

بیزار رہے اور دور رہے یعنی میں صدق دل سے کہتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور گواہی دیتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک ایسے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ مُحَمَّدًا نَبِيًّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ

مردار ہمارے محمد اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اللہ پاک سے اور تمام تعریفیں

لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

اللہ کیلئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں کوئی پھرنا

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَنْتُ

اور نہ طاقت سوائے اللہ بلند رتبہ بزرگ کے ایمان لگاتا ہوں

بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ

اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں سے متصف ہے اور قبول کرتا

جَمِيعَ أَحْكَامِهِ الْإِلَهِيَّ بِتَصْدِيقِ جَمِيعِ دَهَائِلِ عَمْرٍ

ہوں اس کے تمام احکام اے اللہ تصدیق سے تمام عمر

ثَابِتِ دَارِي الْإِلَهِيِّ مِمَّ بَدِئْتُ أَمْرَهُمْ دَهَائِلِ عَمْرٍ بِيَوْمِ

ثابت رکھ اے اللہ اسی امر پر آخری سانس نکلے

أَدَى وَلِقَائِهِ أَبَدًا لَا يَأْتِي بِخَشْيَةِ بَحْرِ حَبِيبٍ خَوْذِ

اور ملاقات ہمیشہ کی بخش دے بطفیل اپنے حبیب



مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

محمد اللہ کے رسول ہیں رحمت کرے اللہ ان پر اور انہی آل پر اور سلام بھیجے

وَعَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اور اپنی خلقت میں سے بہترین ہمارے سردار محمد اور ان کی تمام آل پر

أَجْمَعِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا حَاضِرًا وَنَاطِرًا ظَاهِرًا

قَوْلًا وَفِعْلًا حَاضِرًا وَنَاطِرًا ظَاهِرًا

وَبَاطِنًا وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

و باطناً اور کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

ہیں رحمت کرے اللہ ان پر اور ان کی آل اور اصحاب سب پر

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اپنی رحمت سے اے بڑے رحم والے رحم کرنے والوں سے

# عز بسمہ شریف

## سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

حق بسم اللہ شریف کے اور

بِعِزِّمَۃِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

عزت بسم اللہ شریف کے اور

بِفَضْلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

فضیلت بسم اللہ شریف کے اور

بِعَظَمَۃِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

عظمت بسم اللہ شریف کے اور

بِعِلّٰلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

عبدال بسم اللہ شریف کے اور

بِجَمَالٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور جمال بسم اللہ شریف کے

بِکَمَالٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور کمال بسم اللہ شریف کے

بِهَيْبَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور ہیبت بسم اللہ شریف کے

بِسَنَزَلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور مرتبہ بسم اللہ شریف کے

بِسَلْطٰتٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور سلطنت بسم اللہ شریف کے

بِجَبْرٰتٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور جبروت بسم اللہ شریف کے

بِکِبْرِيَاةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور کبریاہی بسم اللہ شریف کے

بِشَنَاءٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور ستارہ بسم اللہ شریف کے

بِبِهْمَاةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اور تماندگی بسم اللہ شریف کے

بِكْرَامَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

بزرگی بسم اللہ شریف کے اور

بِسُلْطٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

بادشاہی بسم اللہ شریف کے اور

بِبَرَکَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

برکت بسم اللہ شریف کے اور

بِعِزَّةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

عزت بسم اللہ شریف کے اور

بِقُوَّةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

طاقت بسم اللہ شریف کے اور

بِقُدْرَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قدرت بسم اللہ شریف کے

ارْفَعْ قَدْرِيْ وَاشْرَحْ صَدْرِيْ وَايِّرْ اَمْرِيْ

بلند کر قدر میری اور کھول دے سینہ میرا اور آسان کر کام میرا

وَارْزُقْنِيْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ بِفَضْلِكَ وَ

اور رزق دے مجھے جہاں سے حساب اپنے فضل اور

كَرَمِكَ يَا مَنْ هُوَ كَمَا يَعْصُ حَمْسَق

کرم سے اے وہ ذات کہ کبھی کبھی حمسق ہے۔

وَأَسْأَلُكَ بِجَلَالِ الْعِزَّةِ وَجَلَالِ الْهَيْبَةِ وَ

اور تجھ سے سوا کرتا ہوں عزت کی بندی ہیبت کی رفعت اور

جَبْرُوتِ الْعَظَمَةِ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عِبَادِكَ

عظمت کی سلطنت کے طفیل کہ کر دے مجھے اپنے نیک بندوں

الصَّالِحِينَ هُ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ

میں سے جن کو نہ کوئی خوف ہے اور

لَا هُمْ يُخْزَوْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

نہ وہ غم کریں گے اپنی رحمت سے اسے بہت رحم والے رحم کرنے والوں سے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور رحمت فرمادے ہمارے سردار محمد اور ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَوَّافِعُلِي كَذَا وَكَذَا

محمد کی آل پر

وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا

اور ہمارے تمام معاملات کے انجام کو بہتر فرما اور بچا ہمیں

مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ

دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے اپنی رحمت سے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اسے بہت رحم والے رحم کرنے والوں سے

الاسماء الاعظم سیدنا بہار الدین خاکی رحمۃ اللہ علیہ

اسم اعظم اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ

اے اللہ میں یقیناً تجھ سے سوال کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے نیاز ہے جس نے نہ جنا

وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ

اور نہ جنا گیا نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔

اسم اعظم دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاِنَّ اللّٰهَ الْاَحَدَ الصَّمَدَ الَّذِیْ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بیکتابے نیاز سے جس نے

لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ

نہ جنا اور نہ جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ط

کہ بخش دے میرے گناہ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اسم عظیم سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ حمد تیرے لئے ہے تیرے سوا

إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَتَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ

کوئی معبود نہیں تو مہربان احسان کرنے والا ہے اے پیدا کرنے والے آسمانوں

وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط يَا حَيُّ

اور زمین کے اے عظمت و عزت والے اے زندہ

يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ

اے قائم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری فرما اپنی رحمت سے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اے بڑے رحم والے رحم کرنے والوں سے

## اسم اعظم چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

يَا كَهْيَعَصَّ يَا حَمَّ عَسَقَ ظَهَّ وَ لَيْسَ يَا مَلِكَ

اے کیسے اے عم عسق ظہ اور لیس اے ملک

يَوْمَ الدِّينِ طِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

روز جزا کے ہم خاص تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں

اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ

خبردار تمام معاملات اللہ کی طرف ہی رہتے ہیں

## اسم اعظم پنجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ رَانِيْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمِكَ الْاَعْلٰى الْاَعْلٰى

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام سے جو بلند بلند

اَلْاَعْلٰى هَ الْاَعَزُّ الْاَعَزُّ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

بلند عزت والا عزت والا عزت والا بزرگ

اَلْاَكْرَمُ الْاَكْرَمُ هَ الْبَدِيْ لَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَجَلُ

بزرگ بزرگ جو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بر جلیل سے



الْأَجَلُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ

میں تر ہے عظیم عظیم عظیم ہے

الْأَعْلَمُ الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ

بہت علم والا، بڑا بہت بڑا ہے کہ جو تو نے اس سے مانگا اس نے

أَجَبْتَهُ وَمَنْ سَأَلَكَ بِهِ أَعْطَيْتَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي

تجھے دیر یا اور تیرے سوال کو پورا کر دیا اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

تیری ذات کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنی تمام مخلوق پر تیری

عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَأَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ أَنْ

رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے فضل کے وسیلے سے سائل ہوں کہ

تَقْضِيَ حَاجَتِي وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

میری حاجت پوری فرما اور اللہ تمہارے کاموں پر حقیقی مستعان ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے۔

وَالْهَكَمُ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اور تمہارا معبود ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمن رحیم ہے۔

سَمِ عَظْمِ مَفْتَمِ  
اِمَامِ اِمَامِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

اَلَمْ يَلِدْ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ط وَ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم ہے اور

عَنَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ط يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا

جھک جائیں گے چہرے حی قیوم کے آگے اے زندہ اے قائم اے

اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

اولین اور آخرین کے معبود اے پالنے والے جہانوں کے

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

اے بہت رحم والے رحم کرنے والوں سے

سَمِ عَظْمِ مَشْتَمِ  
اِمَامِ اِمَامِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

فَسَيَكْفِيكُمْ اَللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ سَلَامٌ

پس کافی ہے ان کو اللہ اور وہ سننے جانتے والا ہے ، سلام ہو

قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ يَا حَافِظُ يَا نَاصِرُ

قول کے لحاظ سے رب رحیم کی طرف سے اے حافظ اے ناصر

يَا مُعِينُ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَضْعِينَ يَا دَلِيلَ

اے مددگار اے فریادوں کی فریاد سننے والے اے دلیل

الْمُتَحَيِّرِينَ يَا مُفْرِجَ الْمَكْرُوبِينَ يَا غِيَاثَ

جبرانوں کے اے دکھوں کے دکھ دور کرنے والے اے فریادوں

الْمُسْتَفِيثِينَ يَا غَنِيَّ بَعِزَّتِكَ الْقَدِيمُ يَا إِلَهَ

کے فریاد رس میری فریاد سن اپنی قدیم عزت سے اللہ کی

الْأَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

طرف سے امر پہلے اور بعد اور اس دن خوش ہوں گے ایماندار

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اللہ کی مدد سے جس کی چاہے مدد کرے اور وہ غالب رحیم والا ہے۔

بِسْمِ الْعَظْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحیم والا ہے

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ

اے اللہ اے رحمن اے رحیم اے رب الارباب

يَا مُفْتِحَ الْأَبْوَابِ ۝ أَلرَّحْمٰنِ عَلَى الْعَرْشِ

اے دروازے کھولنے والے رحمن ہی عرش پر

اَسْتَوِي ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ اَلْاَسْمَاءُ

مستوی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے خوبصورت

الْحُسْنٰى ۝ وَهُوَ الْفَتّٰحُ الْعَلِيْمُ ۝ يَا عَلِيُّ

نام ہیں اور وہ کھولنے والا علم والا ہے اے بلند

يَا عَظِيْمُ ۝ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اے عظیم اور اللہ ہر پندیدہ چیز پر قدرت رکھتا ہے

وَصَلَّىٰ اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ وَعَلَىٰ

اور رحمت کرے اللہ اپنی خلقت سے بہترین محمد پر اور

اِلٰهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

ان کی آل اور اصحاب سب پر

بِسْمِ الْعَظْمِ وَرَحْمَتِهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحیم والا ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حمد تیرے ہی لئے ہے

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ يَا دَعِ السَّمَوَاتِ

تیرے سوا کوئی معبود مہربان احسان کرنے والا نہیں اسے آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْأَحَدُ

زمین کے پیدا کرنے والے اسے جلال اور اکرام والے اور بیکتا

الصَّمدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْهُ وَلَمْ

بے نیاز جس نے نہ جنا اور نہ جنا گیا اور

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ فِي دِينِ نَوْمَةٍ

اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اسے زندہ اسے قائم اپنے ملک اور بقا

مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ يَا حَيُّ الْمَوْتَى يَا حَيُّ

کی ہمیشگی میں اسے زندہ، مردہ زندہ کرنے والے اسے زندہ

يَا مُبِيتَ الْآخْيَارِ يَا وَارِثَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ

اسے زندوں کو مارنے والے اسے زمین اور آسمان کے وارث

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ

اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے طفیل کہ وہ ہی معبود ہے

إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

وہ زندہ قائم ہے اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ

اسی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے

ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا

جو شفاعت کرے اس کے اذن کے بغیر اس کے پاس، جانتا ہے

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

جو ان کے سامنے ہے اور پیچھے ہے اور احاطہ نہیں کرتے

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

کسی چیز کا اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے اور اس کا علم

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ

آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور نہیں تھکتا ان سے ان کی حفاظت اور وہ

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

بلند عظمت والا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام

الْأَعْظَمِ الْأَجَلِ الْأَكْرَمِ الْأَعَزِّ الَّذِي إِذَا دُعِيَ

بڑے، جلالت والے، عزت والے سے، وہ کہ جب تو اس سے

بِهِ أَجِبْتَهُ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَتْهُ يَا نُورَ

بلا یا جاتے جو اب قبول سے اور جب اس سے سوال کیا جائے عطا کرے اے نور

يَا مَدَبِرَ الْأُمُورِ يَا عَالِمًا بِمَا فِي الصُّدُورِ

اے کاموں کی تدبیر کرنے والے اے دلوں کے امور جاننے والے

يَا رَقِيبَ ۝ يَا مُجِيبَ ۝ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ ۝

اے نگہبان اے قبول کرنے والے اے دعا سننے والے

يَا لَطِيفًا لِمَا تَشَاءُ يَا رُؤُوفٌ يَا عَظُوفٌ

اے مہربانی کرنے والے جس پر چاہے اے رؤوف اے مہربان

يَا حَلِيمٌ يَا كَبِيرٌ يَا عَظِيمٌ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ

اے بردبار اے بڑے اے عظیم اے اللہ اے رحمن

يَا رَحِيمٌ يَا عَلِيمٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے رحیم اے علم والے اے بزرگی اور عزت والے

يَا كَهْفِ عَصٍ حَمِ عَسَقِ ظَلَّةِ لَيْسٍ

اے کہیں حم عسق ظلہ لیس

يَا مَلِكَ يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

اے روز جزا کے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے

نَسْتَعِينُ هُوَ الْوَلِيُّ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ بِرَحْمَتِكَ

مدد مانگتے ہیں خبردار تمام کاموں کا مرجع اللہ ہی ہے اپنی رحمت سے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

اے بہت رحم والے رحم کرنے والوں سے، اور رحمت کرے اللہ اپنی مخلوق میں سے بہتر

وَسَيِّدِ رُسُلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اور اس کے رسولوں کے مہر اور محمد اور ان کی آل اور اصحاب سب پر

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

اور بڑے کثیر سلام نازل کرے۔

# دعائے الفاتحہ الشریفہ

سیدنا و سیدنا حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ هَٰذَا قِیَوْمِ

تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو پالنے والا جہانوں کا ہے قائم رکھنے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ مُدَبِّرِ الْخَلٰقِ

آسمانوں اور زمینوں کے تدبیر کرنے والے سب مخلوق

اَجْمَعِیْنَ هٰذَا مُنَوِّرِ بَصَائِرِ الْعَارِفِیْنَ بِسُوْرِ

کے عارفوں کی آنکھوں کو نور معرفت اور

السَّمْعِیْنَ وَالْبَصِیْرِ هٰذَا جَازِبِ اَزْمَةِ اسْرَارِ

بصیرت سے روشن کرنیوالے قرب و تمکین سے محققوں کے

الْمُحَقِّقِیْنَ بِجَذْبِ الْقُرْبِ وَالشُّكْرِیْنَ هٰذَا

بھیدوں کی لگاموں کو کھینچنے والے

فَاتِحِ اقْفَالِ قُلُوْبِ السُّوْجِدِیْنَ بِمَفَاتِحِ

کھولنے والے موقدین کے دلوں کے قفلوں کو شکر کرنیوالوں کی



حَمْدِ الشَّاكِرِينَ هُ أَحْمَدُ أَحْمَدًا اَيْفُوقُ

حمد کی جہا بیوں سے میں اس کی ایسی حمد کرتا ہوں جو بلند

وَيَفْضُلُ وَيَعْلُو أَجَلَهُ وَأَفْضَلُهُ وَأَكْمَلُهُ حَمْدًا

اور بڑھی ہوئی اور بلند ہو، اس میں بڑی اور افضل اور کامل تر حمد

الْحَامِدِينَ حَمْدًا اِيْكَوْنُ لَنَا فِيْهِ رِضًا وَفَوْزًا

حامدین کی ہے وہ حمد کہ ہو اس میں ہمارے لئے رضا و کامیابی

وَذَخْرًا وَحِفْظًا وَحِرْزًا عِنْدَ خَالِقِيْ وَمَخَالِقِي

و ذخیرہ و حفاظت اور حفاظت میرے خالق کے نزدیک اور خالق

الْاَقْلَامِ وَالْاَقْطَارِ وَالْاَمْطَارِ وَالْاَبْصَارِ وَ

ا قلموں اور اطراف اور بارشوں اور آنکھوں اور

الْاَفْلَاكِ وَالْاَمْلَاكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

آسمانوں اور املاک کے جو پالنے والا جہانوں کا

وَالْاَرْضِيْنَ رَبِّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ رَبِّ

اور زمینوں کا پالنے والا اولین و آخرین کا پالنے والا

السَّلٰكَةِ الْمَقْرَبِيْنَ اَجْمَعِيْنَ هُ الرَّحْمٰنُ

ملائکہ مقربین سب کا مہربان

الرَّحِيْمُ الْاَزَلِيُّ الْقَدِيْمُ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

رحم والا ازلی قدیم سننے والا جاننے والا

الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ الْمُقْتَدِرِ

بردار کریم علم والا عظمت والا قدر والا

الْحَلِيمِ الَّذِي دَخَى الْأَقَالِيمَ وَاخْتَصَرَ

علم والا جس نے ملکوں کو وسعت بخشی اور خاص کیا

مُوسَى الْكَلِيمِ بِالتَّكْوِيمِ وَاخْتَارَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

موسے کلیم اللہ کو کلام سے اور چن لیا محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ

صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور

الرُّسُلِ وَالرَّسُلِينَ بِالْقَلْبِ الرَّحِيمِ

رسولوں سے رحم والے دل سے

وَإِخَى الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمَةٌ وَسَمِيَتْ نَفْسًا وَأَحْيَا

اور بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کیا اور اپنے دو نام

بِاسْمَيْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهِيَ السَّمَانُ

رحمن رحیم بتائے پس وہ دونوں نام

رَحِيمَانَ كَرِيمَانَ شَرِيفَانَ جَلِيلَانَ وَهُمَا

رحم والے کریم والے شرافت والے عزت والے ہیں اور وہ

شِفَاءٌ لِكُلِّ ذَلِيلٍ وَسَقِيمٍ وَدَوَاءٌ لِكُلِّ

شفا دیتے ہیں ہر ذلیل کو اور بیمار کو اور علاج ہیں ہر

عَلَيْلٍ قَالِيْمٍ وَعِنَاءٍ لِّكُلِّ فَقِيْرٍ وَعَدِيْمٍ

بیمار اور الم زدہ اور غنار ہر فقیر اور نادار کے لئے

مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ هَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي

ملک روز جزا کا وہ جس کے ملک میں اس کا کوئی

مُلْكِهِ مَنَازِعٌ وَلَا قَرِيْنٌ وَلَا مُشَارِكٌ

نہ جھگڑالو اور نہ ساجھی اور نہ شریک

وَلَا كَفِيْلٌ وَلَا وَزِيْرٌ وَلَا مُنَاطِرٌ وَلَا مُدَبِّرٌ

اور نہ کفیل اور نہ وزیر اور نہ مناظر اور نہ مدبر

مُشِيْرٌ وَلَا ظَهِيْرٌ وَلَا مُعِيْنٌ بَلْ كَانَتْ

مشیر اور نہ غالب اور نہ مددگار ہے بلکہ وہ تمام

قَبْلَ وُجُوْدِ الْعٰلَمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ هَ لَا اِلٰهَ

جہانوں کے وجود سے پہلے تھا تیرے سوا

اِلَّا اَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ هَ سُبْحٰنَكَ

کوئی معبود نہیں اسے جلالت و عزت والے یا ہے وہ

وَتَعَالٰی قِيَوْمًا اَبَدًا اَبِدِيْنَ وَدَهْرًا ذٰهَرِيْنَ

اور بلند مرتبہ قائم رہنے والا ہمیشہ کے لئے اور رہتی دنیا تک

فَهُوَ اَحَاطَنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الشَّيْطٰنِيْنَ هَ

پس اس نے حفاظت کی میری تمام شیطانوں سے

وَالسَّلَاطِينِ وَعَوَّقَنِي عَنْ جَمِيعِ الْأَقْرَبِينَ

اور بادشاہوں سے اور نجات دی مجھے تمام قریب والوں

وَالْأَبْعَادِينَ وَحَجَبَنِي عَنْ جَمِيعِ الْجَنَائِسِ

اور بعید والوں سے اور محفوظ کیا مجھے جنوں اور انسانوں

الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعِينَ

تمام کی مختلف جنسوں سے

وَوَجَّهَنِي إِلَىٰ جِهَاتِ الْمُتَّقِينَ إِيَّاكَ

اور متوجہ کیا مجھے طرف متقین کی ہم تیری ہی

تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا مَوْلَانَا إِيَّاكَ

عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے ہمارے مولیٰ ہم تیری ہی

تَعْبُدُ بِالْإِقْرَارِ وَنَعْتَزُّكَ بِالتَّقْصِيرِ

عبادت کرتے ہیں اقرار سے اور اعتراف کرتے کوتاہیوں کا

وَلِنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَسْتَعِينُ

اور تجھ پر ایمان لاتے اور تجھ پر بھروسہ کرتے اور تجھ سے مدد

بِكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَخْجَلُ مِنْ جَمِيعِ

ملگتے اور بخشش مانگتے ہیں اور تمام گناہوں سے شرمندہ

الذُّنُوبِ وَنُتُوبُ بِوَسْطِكَ وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ

ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا

إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا حِزْبًا

کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ مقابل

لَكَ وَلَا يَشْبَهُ لَكَ وَلَا مِثْلَ لَكَ وَلَا إِلَهَ

اور نہ نظیر اور نہ مثل ہے اور تیرے سوا کوئی

غَيْرُكَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَقُّ

معبود نہیں تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو سچا ہے

الْمُبِينُ هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَكَ

بیان کر نیوالا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے خاص بندے

وَرَسُولُكَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ

اور رسول ہیں جو رسول سچے امین ہیں

السَّبْعُونَ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ صَلَّى

جو سب مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں رحمت کے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَهَ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللہ ان پر اور سلام بھیجے اور ان کی آل پر جو پاک ہے

الظَّاهِرِينَ وَعَلَى أَصْحَابِهِ السَّادَةِ الْأَكْرَمِينَ

سجری ہے اور ان کے اصحاب پر جو عزت والے سردار ہیں

وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِيَّاكَ

اور تمام انبیاء اور مرسلین پر اور تم تجھی سے

نَسْتَعِينُ ۙ نَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى طَاعَتِكَ

مدد مانگتے ہیں مدد چاہتے تھے سے تیری عبادت پر

يَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَاجَةٍ وَأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ

اے اللہ ہر حاجت میں اور دین و دنیا

الذِّينِ وَالْدُّنْيَا ۙ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

کے کاموں میں ہمیں سیدھی راہ

الْمُسْتَقِيمَ ۙ هُمْ أَهْلُ الْإِسْتِقَامَةِ

دکھادے ان کی جو درستی اور استقامت

وَالْتَّقُوْا يَمْصِرَاطَ اَهْلِ الْاِخْلَاصِ

پر ہیں اخلاص اور تسلیم والوں کی راہ

وَالْتَسْلِمُوْا صِرَاطَ الرَّاٰغِبِيْنَ اِلَى

راہ ان لوگوں کی جو جنت نعیم

جَنَّتِ النَّعِيْمِ صِرَاطَ الْمُشْتَاقِيْنَ اِلَى

کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی راہ جو تیرے

وَجْهَكَ الْكِرَامِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

وجہ پاک کے مشتاق ہیں راہ ان کی جن پر تیرا انعام

عَلَيْهِمْ مِنَ التَّيْبِيْنَ وَالصَّٰدِقِيْنَ وَ

ہے یعنی نبیوں اور صدیقوں اور

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ

اور شہیدوں اور نیکو کاروں کی اور ان کا ساتھ بہت اچھا

رَفِيقًا ۙ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ

ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ علم والا

بِاللَّهِ عَلِيمًا ۙ نَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُنْعِمَ

کافی ہے اسے پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو

عَلَيْنَا بِرِضَاكَ وَيَا مَلِكَ رِقَابِ الْعَالَمِينَ

ہم پر اپنی رضا کا انعام فرما اور اے سب لوگوں کے

أَجْمَعِينَ ۙ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

مالک تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۙ اللَّهُمَّ

بے شک میں ظالموں سے ہوں اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَفْتَحَ لِي طَرِيقَ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لئے اپنے نام کی

مَعْرِفَةِ إِسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْعَظِيمِ

پہچان کا راستہ کھول دے جو اعظم بڑا

الْأَقْدَامِ الْقَدِيمِ الْأَكْرَمِ الْكَرِيمِ

سب سے اول قدیم عزت و حرمت والا

السَّخْرُونَ الْمَكْنُونِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ

مخزون پوشیدہ اول آخر

الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْفَرْدِ الْوَتْرِ الْحَيِّ

ظاہر باطن فرد اکیلا زندہ

الْقَيُّومِ وَتُوصِلَنِي بِهِ إِلَى جَمِيعِ مَطَالِبِي

قائم ہے اور پہنچائے تو مجھے اس کے ذریعہ میرے تمام مطالب تک

وَتَسِّرْ لِي بِهِ سَبَابَ طَاعَتِكَ وَتَفْرِجْ لِي

اور آسان کرے تو میرے لئے اس سے اپنی عبادت کے اسباب اور فراخی دے

بِهِ فِي سِعَةِ مُلْكِكَ الْأَكْبَرِ وَتَسْمِكُنِي

مجھے اس سے اپنے بڑے ملک کی فراخی میں اور غلبہ دے مجھے اس

بِهِ نَاصِيَةَ كُلِّ ذِي رُوحٍ نَاصِيَةَ كُلِّ

کے ذریعہ ہر ذی روح کی پیشانی پر ہر چیز تیری

شَيْءٍ بِيَدِكَ وَتُنْجِنِي بِهِ مِنْ

دسترس میں ہے اور نجات دے مجھے اس کے ذریعہ اپنے

مُوجِبَاتِ غَضَبِكَ وَتُبَاعِدْ لِي بِهِ

غضب کے اسباب سے اور دور کر دے مجھے اس کے

بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ يَا اللَّهُ أَدْرِكُنِي

ذریعہ اپنی نافرمانی سے اے اللہ اپنی مہربانیاں



يُطْفِكَ يَا اللَّهُ أَدْرِكُنِي بِطُفِكَ يَا اللَّهُ

میرے شامل حال کر، اے اللہ مجھے اپنی مہربانی میں لے لے، اے اللہ

نَجِّنَا مِنَّا نَخَاوُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

نجات دے ہمیں اس چیز سے جس سے ہم ڈرتے ہیں، ہم کو غضب شدگان

وَالصَّالِحِينَ أَمِينٌ

اور گمراہوں کے راستہ سے بچا

# سورۃ یس

سورۃ یس مکیہ وہی ثلاث وثمانون آیت و خمس رکوعت

سورہ یس مکی ہے اور اس کی تراسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے

یٰس ۙ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۙ اِنَّکَ لَیْمِنَ

یس ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ مرسلین

الْمُرْسَلِیْنَ ۙ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۙ

سے ہیں آپ صراطِ مستقیم پر ہیں

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۙ لِتُنذِرَ قَوْمًا

انارا ہوا ہے عزیز رحم والے کا تاکہ ڈرنا میں آپ اس قوم

مَّا اُنذِرَ اٰبَاؤَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۙ لَقَدْ

کو کہ نہیں ڈرائے گئے انکے آباؤں پر وہ غافل ہیں قسم بخدا

حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یؤمنُوْنَ ۙ

ثابت ہو گیا قول ان کے اکثر پر پس وہ ایمان نہیں لائیں گے

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْلًا لَّا فِيهِمْ إِلَىٰ

تحقیق ڈال دیا ہم نے ان کی گردنوں میں طوق پس وہ ٹھوڑیوں

الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۗ وَجَعَلْنَا مِنْ

تک میں تو وہ سر ادا نچا کرتے ہیں اور کیا ہم نے ان کے

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۖ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

آگے سے دیوار کو اور ان کے پیچھے سے دیوار

سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۗ

پس ہم نے ان کو ڈھانکا تو وہ دیکھتے نہیں ہیں

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

اور برابر ہے کہ آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں

لَا يُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

نہیں ایمان لانے کے ڈر سناتے ہیں آپ نصیحت کے پیروکار کو

وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

اور جو ڈر سے رحمن سے بغیر دیکھے پس بشارت دیجئے اسے بخشش

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۗ إِنَّا نَحْنُ الْمُحْسِنُونَ

اور ثواب بزرگ کی بیشک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور

نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ

ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کی نشانیوں کو اور ہر چیز کو

أَخَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ هُ وَاضْرِبْ لَهُم

شمار کیا ہے ہم نے ظاہر کتاب میں اور بیان کیجئے ان کے لئے

مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ هُ

مثال گاؤں والوں کی جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا

جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا پس ہم نے

ثَلَاثًا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ هُ قَالُوا

تیسرے سے طاقت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، کہنے لگے

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا هُ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ

تم ہماری طرح کے بشر ہو اور اللہ نے کوئی حکم نہیں

مِنْ شَيْءٍ هُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ هُ قَالُوا

اتارا تم تو جھوٹ بولتے ہو انہوں نے

رَبَّنَا يَعْلَمُونَ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ هُ وَمَا عَلَيْنَا

کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمہ

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ هُ قَالُوا إِنَّا نَطِيرُ نَابِكُمْ هُ

تو پہنچانا ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے تنگن بانا

لَسْنَا لَكُمْ تَنَائِفُ هُ وَالنَّزِجُ مِمَّا كُنتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ

اگر تم نہ رکو گے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور لگے گا تم کو

مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَآءُرُكُمْ مَعَكُمْ

ہم سے عذاب دروناک انہوں نے کہا تمہاری شکون تمہارے ساتھ ہے

أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

کیا اگر تم نصیحت دئے جاؤ بیکہ تم حد سے نکلنے والی قوم ہو

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى

اور آیا اس شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آدمی

قَالَ يَا قَوْمِ أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَ

کہا اے قوم اتباع کرو جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا اس کی اور

هُمْ مُّهْتَدُونَ وَقَالَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِينَ

وہ ہدایت والے ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں

فَطَرَنِي وَالْيَهُ تَرْجِعُونَ ؕ ؕ أَلَا تَتَّخِذُونَ

جس نے مجھے پیدا کیا اور تم انہی کی طرف لوٹتے جاؤ گے کیا مانوں میں اس کے سوا

ذُوْنَهُ إِلَهَةً إِنَّ يَرْدُنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرِّ

مبوروں کو اگر مجھ سے خدا ضرر کا ارادہ کرے

لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ

نہ کفایت کرے گی مجھ سے ان کی شفاعت کسی چیز کی اور نہ چھڑائیں مجھے

إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ؕ إِنِّي أَمْنٌ

بیشک میں تب ظاہر گمراہی میں ہوں گا بیشک میں ایسا نہ لایا

رَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ ؕ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

تمہارے رب پر تو مجھ سے سن لو کہا گیا اسے داخل ہو بہشت میں

قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ؕ بِمَا غَفَرَ لِي

کہا کاش میری قوم جانتی جو میرے رب نے مجھے

رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ؕ وَمَا أَنْزَلْنَا

بخشا اور مجھے عزت والوں سے کیا اور ہم نے نہیں اتارا

عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهَا مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ

اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر

وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ؕ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

اور ہم اتار نہ پالے نہ تھے ان کی آواز نہ تھی مگر ایک سخت

وَأَحَدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ؕ يَا حَسْرَةَ عَلَى

آواز پس وہ اس وقت بجھے ہوئے تھے افسوس ہے

الْعِبَادِ جَمَا يَلْتَمِسُونَ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

بندوں پر ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا کہ وہ اس سے

يَسْتَهْزِءُونَ ؕ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ

ٹھٹھا کرتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہلاک کئے ہم

مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ؕ وَ

نئے ان سے پہلے قرن یہ کہ وہ ان کی طرف نہیں پھر آتے اور

إِنْ كُلُّ لَتَا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُخَضَّرُونَ

نہیں ہیں سب مگر کھٹے نزدیک ہمارے حاضر کئے گئے

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا

اور نشانی ہے ان کے لئے زمین مردہ کہ زندہ کیا ہم نے اسے

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيَسْتَهُ يَا كُلُّونَ هُوَ وَجَعَلْنَا

اور نکالا ہم نے اس سے دانوں کو پس اس سے کھاتے ہیں اور کئے ہم نے

فِيهَا جَنَّتِ مِنْ تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا

اس میں باغ کھجوروں اور انگوروں کے اور جاری کئے

فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ هَلْبِيَا كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا

ہم نے اس میں چشمے تو اس کے پھلوں سے کھاویں اور نہیں

عَمِلَتْهُ أَيْدِي يَهُودٍ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحٰنَ

بنیاد سے ان کے ہاتھوں نے کیا شکر نہیں کرتے پاک ہے

الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ

وہ ذات جس نے جوڑے پایا کئے اس میں سے جسے اگاتی ہے

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

زمین اور ان کے نفسوں سے اور اس سے جو وہ نہیں جانتے

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا

اور نشانی ہے ان کے لئے زمین کھینچتے ہیں ہم اس سے دن پس ایسا نک

هُم مُظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ

اندھیروں میں ہیں اور سورج اپنی جگہ پر چلتا

لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ

ہے یہ اندازہ ہے غالب، جاننے والے کا اور چاند کی

قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

مقرر کر دیں ہم نے منزلیں حتیٰ کہ پھر آتا ہے شاخ کجور کی طرح

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

سورج کو لائق نہیں کہ پالے چاند کو

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۝ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

اور نہ رات سبقت کرتی ہے دن سے اور تمام ستارے آسمان میں

يَسْبَحُونَ ۝ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ

چلتے ہیں اور نشانی ہے ان کے لئے یہ کہ اٹھایا ہے ہم نے ان کی نسل

فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمُ

کو بھری ہوئی کشتی میں اور ہم نے ان کے لئے پیدا کیا

مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ وَإِنْ لَشَاءُ نَغْرِقُكُمُ

اس کی مثل سے جس پر سوار ہوتے تھے اور اگر چاہیں ہم غرق کریں ان کو

فَلَا صَرِيحٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ إِلَّا رَحْمَةً

پس نہ ہو کوئی مددگار ان کے لئے اور نہ وہ چھڑائے جائیں مگر رحمت



مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۚ وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ انْقِرَاءُ

ماتوں سے اور نفع پہنچا یا ایک مقرر وقت تک اور جب کہا جائے انہیں ڈرو

مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ

ان چیز سے جو تمہارے سامنے اور پیچھے ہے امید ہے تم

تُرْحَمُونَ ۚ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ رَبِّهِمْ

رحم کئے جاؤ اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں سے

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۚ وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ

مگر ان سے منہ پھیرتے ہیں اور جب کہا جائے انہیں

انْفِقُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ قَالَ الَّذِينَ

خرچ کرو اس سے جو تمہیں دیا اللہ نے اس سے، تو کافر

كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِبَكُمْ مَنْ تَوَيْشَاءُ

ایمانداروں سے کہتے ہیں کیا کھلائیں ہم ان کو کہ اللہ ان کو

اللَّهُ اطَّعَمَهُ ۗ قَالَ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

کھانا دیتا ہے تم کھلی گمراہی میں ہو

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ

نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت آواز کی جو پکڑے انہیں

وَهُمْ يَخِضُّونَ ۚ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً

اور وہ جھگڑا کرتے ہیں ایسے نہیں طاقت نہیں وصیت کی

وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

اور نہ اپنے اہل کی طرف بھیجیں گے اور بھونکا جائیگا صور میں

فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۚ

پس اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا إِنَّ هَذَا

کہیں گے ہائے افسوس ہمیں بھارتی قبروں سے کس نے اٹھایا یہ ہے وہ

مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۗ

جس کا اللہ نے وعدہ کیا اور سچ کہا تھا رسولوں نے

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ

نہ ہوگا پکارنا مگر ایک سخت آواز پس اچانک وہ سب

لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۚ فَالْيَوْمَ لَا تَنْظُرُ نَفْسٌ

ہمارے پاس حاضر ہوئے پس آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں

شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

کیا جائیگا اور نہ جزا دی جائے گی مگر تمہارے کئے کی

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۚ

بے شک آج کے دن بہشت والے اپنے کام میں خوش ہیں

هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْضِكَ

وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر بیکہ لگائے

مُتَكُونُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَا مَمَّا يَدْعُونَ

ہوئے ان کے لئے اس میں پھل ہیں اور جو وہ چاہیں

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَأَمَّا زَوْجَالِيَوْمَ

سلام ہے کہا ہوا رب رحیم سے اور عدا ہو جاؤ آج کے

أَيُّهَا السُّجْرَمُونَ هَذَا عَهْدُ الْيَوْمِ بَيْنِي

دن اے مجرمو! کیا نہ عہد کیا میں نے تم سے اے آدم کے

آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

بیٹو کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو بے شک وہ تمہارا

مُبِينٌ ۚ وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا

اور قسم ہے اس نے بہت خلق کو تم سے گمراہ کیا کیا تم کو عقل

تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

نہ تھی یہ وہ دوزخ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا

أَضَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ هَ الْيَوْمَ

داخل ہو جاؤ آج اس میں اپنے کفر کے سبب آج

نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

مہر لگا دی ہم نے ان کے مونہوں پر اور باتیں کریں گے ہم سے ہاتھ ان کے

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور گواہی دیں گے پاؤں ان کے اسکی جو وہ کرتے رہے

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا

اور اگر چاہیں ہم تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو پس سبقت کریں گے

الصِّرَاطَ فَآتَىٰ يَبْصُرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ

راہ کی نوکھاں سے بچھیں گے، اور اگر چاہیں ہم تو صورت بدل دیں

عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَ

ان کی جگہ پر پس نہ طاقت رکھیں گزرنے کی اور

لَا يَرْجِعُونَ ؕ وَمِنْ نَعِيرِهِ نُنكِسُهُ فِي

نہ لوٹیں اور جسے ہم عمر دیتے ہیں الٹا کرتے ہیں

الْخَلْقِ ؕ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ؕ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ

پیدائش میں تو کیا انہیں سمجھ نہیں اور نہیں علم دیا ہم نے انہیں شعر کا

وَمَا يَتَّبِعِي لَهُ ؕ ط إِنَّهُ هُوَ الَّذِي كَرَّمَ قُرْآنًا مُّبِينًا ؕ

اور یہ ان کے لائق نہیں وہ نہیں مگر ذکر اور قرآن روشن

لَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ؕ

تاکہ ڈرنا نہیں زندہ کو اور ثابت ہو بات کافروں پر

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِن مَّاءٍ عَيْلًا يَتَّبِعُونَهُمْ  
 كَمَا يَكْفِيهِمْ يَوْمَ لَا كُنُوزَ لَهُمْ وَلَا غَرَبَ لَهْمُ فِيهَا أَلَمَّا حُمِلُوا فِيهَا

کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لئے اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے

أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ  
 فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ هَلِ إِنَّهُمْ

چاروں کو پس وہ ان کے مالک ہیں اور فرمانبردار کیا ان کو ان کیلئے

فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ هَلِ إِنَّهُمْ  
 سَمِعُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ أَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا

پس بعض نین ان کی سواری میں اور بعض کھاتے ہیں اور ان کیلئے

فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ هَلِ

اس میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں کیا شکر نہیں کرتے

وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ  
 يُنصَرُونَ هَلْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ

اور بنایا انہوں نے خدا کے سوا معبودوں کو تاکہ ان کی

يُنصَرُونَ هَلْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ  
 لَا يَخْتَصِمُونَ أَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا جَنَّاتٍ مَّحْضَرُونَ

مدد کی جائے ہرگز نہیں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ

لَهُمْ جَنَّاتٌ مَّحْضَرُونَ هَلْ لَا يَجْزِيكَ قَوْلُهُمْ  
 إِذْ يَخْتَصِمُونَ أَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا جَنَّاتٍ مَّحْضَرُونَ

ان کے لئے شکر میں حاضر کئے گئے پس آپ کو ان کی بات پر طلال نہ ہو

إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ هَلِ إِنَّهُمْ  
 سَمِعُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ أَلَمْ يَجْعَلْ

ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں کیا نہیں

يَرِئًا لِّلنَّاسِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا  
 دَخَلْنَا مُنْجِيًّا فَصَبَّاهُ فِي بطنِهِ مَاءً غَلِيظًا

دیکھتا انسان کہ ہم نے اسے پانی منی کے سے پیدا کیا پس ناگوار وہ

هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِينٌ ه وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا

وہ جھگڑا لوظا بر ہے اور بیان کرنے لگا ہمارے لئے

وَلَيْسَى خَلْقَهُ ط قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

مثال اور بھول گیا اپنی پیدائش کتا ہے کس نے زندہ کیا ہڈیوں کو

وَهِيَ رَمِيْمَةٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا

حالا نکہ وہ بوسیدہ ہو گئیں فرما دو انہیں اس نے زندہ کیا جس نے انہیں

أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ

پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ

وہ ذات جس نے پیدا کی تمہارے لئے ہرے درخت سے

نَارًا فَإِذَا أَنتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ه

آگ ہیں تم اس سے روشنی لیتے ہو

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

کیا نہیں قدرت رکھتا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں

وَالْأَرْضِ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ

اور زمین کو اس پر کہ پیدا کر ڈالے

مِثْلَهُمْ ط بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ

ان کی مثل کیوں نہیں اور وہ بڑا خالق علم والا ہے

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

بلاشبہ حکم اس کا جب ارادہ کرے کسی چیز کا فرماتا ہے

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ هَ فَسُبْحَانَ الَّذِي

اسے ہو جا تو ہو جاتی ہے پس پاک ہے وہ جس کے

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ

ہاتھ میں بادشاہی ہر چیز کی اور

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

# اورادِ فتحیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ (سہ بار) الَّذِیْ

بخشش چاہتا ہوں اللہ بزرگ سے (تین بار) وہ کہ جس کے

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقِیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ

کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم ہے اور پھرتا ہوں اس کی طرف

وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ

اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں اے اللہ تو ہر نقصان سے سلامت ہے

وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَیْكَ یَرْجِعُ السَّلَامُ

تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے

حَیْنَما رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخَلْنَا دَارَ السَّلَامِ

بہیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھا ہے اور ہمیں داخل کر بہشت میں

تَبَارَكَتَ رَبَّنَا وَتَعَالٰی تِیْا ذَا الْجَلَالِ

اے پروردگار تو بڑا ہے اور بڑا ہے اے بزرگی



وَالْاِكْرَامِۤهٗ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

اور عزت والے اس اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد جو

يُوَافِي نِعْمَةً وَّيُكَافِي مَزِيدًا كَرِيمًا

وفا کرتی تیری نعمتوں کے ساتھ اور برابر ہی کرے تیرے مزید کریم سے

اَحْمَدًا لَكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ

تیری حمد کرتا ہوں تیری تمام خوبیوں پر جنہیں میں جانتا ہوں

مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعَلَىٰ جَمِيعِ نِعْمَتِكَ

اور جن کو نہیں جانتا اور تیرے تمام انعاموں پر

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعَلَىٰ كُلِّ

جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا اور ہر حالت

حَالٍ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ قائم ہے نہیں کھڑتی اسے

سِيْنَةٌ وَّلَا ئَوْمٌ طَّلَعَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَا

اونگھ اور نہ نیند اسی کے لئے ہے جو آسمانوں میں اور

مَا فِي الْاَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ

جو زمین میں ہے کون ہے جو شفاعت کرے اس کے نزدیک

الَّذِي يَذُنُّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

سوا اس کے اذن کے، جانتا ہے جو اُن کے سامنے اور پیچھے ہے

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

اور نہیں احاطہ کرتے وہ لوگ کسی شے کا اس کے علم سے مگر جتنا وہ

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

چاہے گھرا ہے اس کے علم نے آسمانوں اور زمین کو

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اور نہیں گراں اس پر نگرانی ان دونوں کی اور وہ بلند بزرگ ہے

سُبْحَانَ اللَّهِ (تینتیس بار پڑھے) الْحَمْدُ لِلَّهِ

اللہ پاک ہے سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں

(تینتیس بار پڑھے) اللَّهُ أَكْبَرُ (چونتیس بار پڑھے)

اللہ بہت بڑا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

بے سلطنت ہے اور اسی کیلئے تعریف ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے

قَدِيرٌ دَسَّسَ (بار پڑھے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے

الْجَبَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لَا

جبار سے اللہ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

غالب بخشنے والے کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کریم عیب ڈھانپنے

الْكَبِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ

والے کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بڑے بلند کے سوا کوئی معبود نہیں

الْمُتَعَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُ الْمَلَائِكِ وَالْ

اللہ رات اور دن پیدا کرنے والے کے سوا کوئی

النَّهَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ السَّعْبُودُ بِكُلِّ مَكَانٍ

معبود نہیں ہر مکان میں عبادت کئے جانے والے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ السَّمْدُ كُورٌ بِكُلِّ لِسَانٍ

ہر زبان میں یاد کئے جانے والے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْرُوفُ بِكُلِّ أَحْسَانٍ

ہر احسان کے ساتھ مشہور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ لَا إِلَهَ

ہر دن میں نئی شان والے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے ساتھ

إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانًا

ایمان کی حالت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی طرف سے بیخوفی کی حالت میں

مِنَ اللَّهِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانَةٌ مِّنْ عِنْدِ

اللہ سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ امانت اللہ کے نزدیک

اللَّهُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہیں پھرنا اور نہ طاقت مگر اللہ

بِاللَّهِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا سُبْحَانَ

سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں از روئے تحقیق اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

إِيمَانًا وَصِدْقًا ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْبُدًا وَتَرْقًا

ایمان اور صدق سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں از روئے عبادت اور بندگی کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَلَطُّفًا وَرِفْقًا ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں از روئے مہربانی اور نرمی کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَ

ہر شے سے پہلے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر شے

كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْقَىٰ رَبُّنَا وَيَفْنَىٰ

کے بعد رہے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں باقی رہے گا رب ہمارا اور فنا ہوگی

وَيَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

اور مر جائے گی ہر شے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بادشاہ

الْحَقُّ السُّبُّنُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

حق ظاہر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بادشاہ ،

الْحَقُّ الْيَقِينُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

حق ، صاحب یقین ہے اللہ بلند ، بزرگ کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ

اللہ بردبار ، کریم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ساتوں آسمانوں

إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

اور عرش عظیم کے پروردگار کے سوا کوئی

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْرَمُ

معبود نہیں ہے کرم کرنے والوں سے بہت زیادہ کرم کرنے والے

الْأَكْرَمِينَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ارحم الراحمین کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَبِيبُ الثَّوَابِينَ ۗ لَا إِلَهَ

توبہ کرنے والوں کے دوست اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مسکینوں پر رحم

إِلَّا اللَّهُ رَاحِمُ الْمَسَاكِينِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کرنے والے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں گمراہوں کو ہدایت دینے والے

هَادِي الْمَضِلِّينَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَلِيلُ

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں حیرت زدہوں کی دلیل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

الْحَاطِرِينَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانُ الْخَائِفِينَ ۝

خوفزدوں کی امان، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ ۝ لَا

فریاد یوں کے فریاد رس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں مددگاروں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سے بہتر مددگار خدا کے سوا کوئی معبود نہیں حفاظت کرنے والوں سے بہتر

خَيْرُ الْحَافِظِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وارثوں سے بہتر خدا کے سوا کوئی

الْوَارِثِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

معبود نہیں حاکموں سے بہتر خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا

رازقوں سے بہتر خدا کے سوا کوئی معبود نہیں فاتحین سے بہتر خدا

اللَّهُ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ

کے سوا کوئی معبود نہیں بخشنے والوں سے بہتر خدا کے سوا

الْغَافِرِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

کوئی معبود نہیں رحم کرنے والوں سے بہتر خدا کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَوَدَّعَكَ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اور جس کا وعدہ سچا ہے

وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

اور مدد کی اس نے اپنے بند کی اور غلبہ یا اپنے لشکر کو اور شکست دی گروہوں کو

وَحَدَّاهُ وَلَا شَيْئَ بَعْدَهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ

اکیلے نے اور اس کے بعد کوئی شے نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نعمت والا

النِّعْمَةِ ۗ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ

ہے اسی کی فضیلت اور اسی کی خوبصورت تعریف ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِثَةَ عَرْشِهِ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی خلق کی تعداد کے موافق اور اس کے عرش کے وزن کے موافق

وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَمِثْلَ نَفْسِهِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور اس کی ذات کی خوشی کے موافق اور موافق کلمات اس کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيمَةِ

جو وحدانیت فردانیت قدیمیت ازلی ابدی

الْأَزَلِيَّةِ الْإِبْدِيَّةِ لَيْسَ لَهُ صِدٌّ وَلَا رِيْدٌ

والا ہے - اس کا کوئی مخالف اور مقابل

وَلَا شِبْهٌ وَلَا شَرِيْكٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

اور ہم مثل اور سا جھی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اکیلا ہے

لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي

اس کا کوئی شریک نہیں اسی کیلئے ملک اور تعریف زندہ کرتا ہے

وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ

اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اسے موت نہیں، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور

هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْيَهُ الْمَصِيرُ

وہ ہر پسندیدہ شے پر قادر ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ

وہ اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ

ہر شے کو جانتا ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں اور

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

وہ سننے دیکھنے والا ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا

الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (سہ بار)

کار ساز ہے اچھا آقا ہے اور بہتر مددگار تین بار

بِحَوْلِكَ غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَالْيَهُ الْمَصِيرُ

پڑھے۔ اسے پروردگار ہم تجھ سے بخش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹتا ہے

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا

اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک کے وہ کوئی

مَنْعَتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا

نہیں دے سکتا اور تیری قضا کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور نہیں فائدہ دیتا



الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ

نصیب والے کو تجھ سے نصیب پاک ہے میرا رب بلند ،

الْأَعْلَى الْوَهَّابِ (دو بار بخواند) سُبْحَانَ رَبِّيَ

برتر اور بڑا عطا کرنے والا ہے دو مرتبہ پڑھے۔ پاک ہے میرا رب

الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ يَا وَهَّابُ

بلند برتر کریم بہت دینے والا اے بہت دینے والے

سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

پاک ہے تو اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

پاک ہے تو ہم نے تیرے پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا

سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ سُبْحَانَكَ

پاک ہے تو ہم نے تیرے ذکر کا حق ادا نہیں کیا پاک ہے تو

مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ

ہم نے تیرے شکر کا حق ادا نہیں کیا پاک ہے اللہ

الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ

ہمیشہ رہنے والا پاک ہے اللہ واحد

الْوَاحِدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

احد پاک ہے اللہ اکبلا بے نیاز

سُبْحَانَ اللَّهِ رَافِعِ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

پاک ہے اللہ اٹھانے والا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے

سُبْحَانَ اللَّهِ الْبَاسِطِ الْأَرْضِ بِدَاسِنٍ

پاک ہے اللہ بچھانے والا زمین کو بغیر تکیہ کے

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً

پاک ہے اللہ جس نے نہ بیوی بنائی

وَلَا وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ

اور نہ لڑکا پاک ہے اللہ جس نے نہ جنا

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور نہ جانا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ

پاک ہے شہنشاہ پاک پاک ہے

ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ

ملک اور سلطنت والا پاک ہے

ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْهَيْبَةِ

عزت اور بزرگی اور قدرت اور ہیبت

وَالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَالْبَقَاءِ وَالشَّلْوِ

اور جلال اور جمال اور کمال اور بقاء اور تعریف

وَالضِّيَاءِ وَالْأَلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ

اور روشنی اور انعاموں اور نعمتوں اور کبریائی اور

الْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَمْدِ الَّذِي

عظمت والا پاک ہے بادشاہ، زندہ جو

لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا

تو نہیں اور نہ فوت ہوگا پاک ہے پاکیزہ ہے اے ہمارے

وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ اللَّهِ

اور فرشتوں اور روح کے پروردگار پاک ہے اللہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اور نہیں کسی طرف پھرنا اور نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ بلند بزرگ کے

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي

اے اللہ تو بادشاہ، حق ہے تیرے سوا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

کوئی معبود نہیں

يَا اللَّهُ	يَا رَحْمَنُ	يَا رَحِيمُ
-------------	--------------	-------------

اے اللہ	اے بڑے رحم کرنے والے	اے مہربان
---------	----------------------	-----------

يَا مَلِكُ	يَا قُدُّوسُ	يَا سَلَامُ
اے بادشاہ	اے پاک	اے بے عیب
يَا مُؤْمِنُ	يَا مُهَيِّبُ	يَا عَزِيزُ
اے نڈر کر نیوالے	اے نگہبان	اے غالب
يَا جَبَّارُ	يَا مُتَكَبِّرُ	يَا خَالِقُ
اے بڑے جبر کر نیوالے	اے تکبر والے	اے پیدا کر نیوالے
يَا بَارِيُّ	يَا مُصَوِّرُ	يَا غَفَّارُ
اے درست کر نیوالے	اے صورت بنانے والے	اے بڑے بخشنے والے
يَا فَهَّارُ	يَا وَهَّابُ	يَا سَرَّازُ
اے بڑے غالب	اے بڑے دینے والے	اے بڑے رازق
يَا فَتَّاحُ	يَا عَلِيمُ	يَا قَابِضُ
اے بڑے کھولنے والے	اے بڑے جاننے والے	اے قبض کر نیوالے
يَا بَاسِيطُ	يَا خَافِضُ	يَا رَافِعُ
اے کھولنے والے	اے پہچاننے والے	اے اونچا کر نیوالے
يَا مُعِزُّ	يَا مُذِلُّ	يَا سَمِيعُ
اے عزت دینے والے	اے ذلیل کر نیوالے	اے بڑے سننے والے
يَا بَصِيرُ	يَا حَكَمُ	يَا عَدَلُ
اے بڑے دیکھنے والے	اے بڑے فیصلہ کر نیوالے	اے بڑے داد دینے والے

يَا حَلِيمٌ	يَا خَبِيرٌ	يَا طَيْفٌ
اے بردبار	اے بڑے علم والے	اے مہربان
يَا شَكُورٌ	يَا غَمُورٌ	يَا عَظِيمٌ
اے شاکروں کے قدر مان	اے بخشنے والے	اے بزرگ
يَا حَفِيظٌ	يَا كَبِيرٌ	يَا عَلِيٌّ
اے نگہبان	اے بڑے	اے برتر
يَا حَلِيلٌ	يَا حَسِيْبٌ	يَا مُقِيْتُ
اے بزرگ	اے کفایت کرنے والے	اے روزی دینے والے
يَا مُجِيبٌ	يَا رَقِيْبٌ	يَا كَرِيْمٌ
اے قبول کرنے والے	اے نگہبان	اے بخشنے والے
يَا وَدُودٌ	يَا حَكِيْمٌ	يَا وَاسِعٌ
اے بڑے دوست	اے حکمت والے	اے فراخی کرنے والے
يَا شَهِيْدٌ	يَا بَاغِيْثٌ	يَا مَجِيْدٌ
اے موجود	اے رسل بھیجنے والے	اے بزرگ
يَا قَوِيٌّ	يَا وَكِيْلٌ	يَا حَقٌّ
اے طاقتور	اے کارساز	اے سچے
يَا حَسِيْدٌ	يَا وَدِيْعٌ	يَا مَتِيْنٌ
اے تعریف کئے گئے	اے دوست	اے مضبوط

يَا مُخِصِي	يَا مُبْدِي	يَا مُعِيدِي
اے گھیرنے والے	اے پیدا کرنے والے	اے لوٹانے والے
يَا مُخِيْبِي	يَا مُهِيبِي	يَا حَيُّ
اے زندہ کرنے والے	اے مارنے والے	اے زندہ
يَا قَيُّوْمُ	يَا وَاْحِدُ	يَا مَا جِدُّ
اے تائم	اے پالنے والے	اے بزرگ
يَا وَاْحِدُ	يَا اَحَدُ	يَا صَمَدُ
اے واحد	اے اکیلے	اے بے نیاز
يَا قَادِرُ	يَا مُقْتَدِرُ	يَا مُقَدِّمُ
اے توانا	اے قدرت والے	اے آگے کرنے والے
يَا مُوْخِرُ	يَا اَوَّلُ	يَا اٰخِرُ
اے پیچھے کرنے والے	اے پہلے	اے پچھلے
يَا ظَاہِرُ	يَا بَاطِنُ	يَا وَاٰلِي
اے ظاہر	اے پوشیدہ	اے کام بنانے والے
يَا مُتَعَالِي	يَا بَزُّ	يَا تَوَّابُ
اے برتر	اے نیچو کاہ	اے توبہ قبول کرنے والے
يَا مُنْعِمُ	يَا مُنْتَقِمُ	يَا عَفُوُّ
اے نعمت دینے والے	اے بدلہ لینے والے	اے معاف کرنے والے

يَا رَعُوفُ	يَا مَلِكَ الْمُلْكِ	يَا ذَا الْجَلَالِ
اے مہربان	اے ملک والے	اے بزرگی
وَالْاِكْرَامِ	يَا سَرَبُ	يَا مُقْسِطُ
اور انعام والے	اے پروردگار	اے دینے والے
يَا جَامِعُ	يَا غَنِيُّ	يَا مُغْنِيُّ
اے جمع کرنے والے	اے بے پروا	اے بے پروا کرنے والے
يَا مُعْطِيُّ	يَا مَانِعُ	يَا ضَارُّ
اے دینے والے	اے روکنے والے	اے ضرر پر قدرت والے
يَا نَافِعُ	يَا نُورُ	يَا هَادِيُّ
اے نفع دینے والے	اے نور	اے ہدایت دینے والے
يَا بَدِيْعُ	يَا بَاقِيُّ	يَا وَارِثُ
اے بے مادہ پیدا کرنے والے	اے ہمیشہ زندہ رہنے والے	اے وارث
يَا رَشِيْدُ	يَا صَبُوْرُ	يَا صَادِقُ
اے راست تدبیر	اے صبر والے	اے سچے
	يَا سِتَّارُ	
	اے پردہ پوش	
يَا مَنْ تَقَدَّسَ عَنِ الْأَشْبَاهِ ذَاتُهُ وَتَنَزَّاهُ		
اے وہ ذات کہ پاک ہے ہمہ مثلوں سے اور پاک ہیں		

عَنْ مُشَابَهَةِ الْأَمْثَالِ صِفَاتُهُ يَأْمَنُ دَلَّتْ

مشابہت کی مثالوں سے صفات اس کی اسے وہ ذات کہ

عَلَى وَحْدِ أَيْتِهِ آيَتُهُ وَشَهَدَتْ

دلالت کرتی ہیں اس کی وحدانیت پر نشانیاں سچی اور گواہی دیتی ہیں اس کی

بِرُبُوبِيَّتِهِ مَصْنُوعَاتُهُ وَاحِدٌ لَا مِنْ

رہبوبیت پر مصنوعات اس کی واحد ہے نہ بسبب

قِلَّةٍ وَمَوْجُودٌ لَا مِنْ عِلَّةٍ يَأْمَنُ هُوَ بِالْبِرِّ

قلت کے اور موجود ہے نہ بسبب کسی وجہ کے اسے نیکی کے ساتھ

مَعْرُوفٌ وَبِالْإِحْسَانِ مَوْصُوفٌ مَعْرُوفٌ

مشہور اور احسان سے موصوف معروف ہے

بِلَاغَايَةٍ وَمَوْصُوفٌ بِلَا نِهَائَةٍ أَوَّلٌ قَدِيمٌ

بے حد اور موصوف ہے بے انتہا اول ہے قدیم ہے

بِلَا اِبْتِدَاءٍ وَآخِرٌ كَرِيمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ وَغَفَرَ

بغیر ابتداء کے اور آخر، کریم ہے بغیر انتہا کے اور بخشتا اس نے

ذُنُوبَ الْمُذْنِبِينَ كَرَمًا وَجِلْمًا يَأْمَنُ

گناہگاروں کے گناہوں کو مہربانی اور بردباری سے، اسے وہ ذات

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے



حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى

اللہ ہمیں کافی ہے اور اچھا کارساز اچھا ہے مولیٰ

وَنِعْمَ النَّصِيرُ يَا دَاثِمًا يَا فَنَاءً وَيَا قَائِمًا

اور بہتر مددگار اے دائم بغیر فنا کے اور اے قائم

بِلَا زَوَالٍ وَيَا مُدِيرًا بِلَا وَزِيرٍ سَهْلٌ عَلَيْنَا وَ

بغیر زوال کے اور بغیر نائب کے تدبیر کرنے والے آسان کر دے ہم پر اور

عَلَى وَالِدَيْنَا كُلِّ عَسِيرٍ وَلَا أَحْصَى ثَنَاءً

ہمارے ماں باپوں پر ہر مشکل کام ہمیں شمار کر سکتا میں تیری

عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْبَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَزًّا

تعریف کو تو نے جیسے تعریف کی اپنی ذات کی غالب ہے

جَارِكٌ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَقَدَّسَتْ أَسْمَاعُكَ

تیری پناہ اور بڑی ہے تیری تعریف اور پاک ہیں نام تیرے

وَعَظَمَ شَانُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يَفْعَلُ اللَّهُ

اور بڑی ہے شان تیری اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ جیسا چاہتا ہے

مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ

اپنی قدرت سے کرتا ہے اور حکم کرتا ہے جیسا اس کا ارادہ ہو اپنی عزت سے

الْأَرْوَاحَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ

خبردار تمام کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں ہر شے ہلاک ہو نپوالی ہے

إِلَّا وَجْهَهُ لَهَا الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ط

سوائے اس کی ذات کے ، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط

پس عنقریب کافی ہوگا انہیں اللہ تعالیٰ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے

حَسْبُنَا اللَّهُ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا

ہمیں اللہ کافی ہے اور کفایت کی اس نے ، سنا ہے اللہ دعا کرنے والے کی

لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ سُنْتُهُمِ مِنْ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ

نہیں اللہ سے پرے کوئی انتہا ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے

فَقَدْ نَجَّاهُ سُبْحَانَ مَنْ لَحْمٌ زَلَّ رَبًّا رَحِيمًا

وہ نجات پا گیا پاک ہے وہ جو ہمیشہ سے رب رحیم ہے

وَلَا يَزَالُ كَرِيمًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ

اور ہمیشہ کریم کرے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار

الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ

مہربان ہے پاک ہے اللہ اور برکت والا ہے پروردگار

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا

اور سب تعریفیں اللہ جہانوں کے پالنے والے کیلئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا

نہیں اکبلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے معبود اکبلا

أَحَدًا صَمَدًا أَفْرَدًا وَثَرًا حَيًّا قَيُّومًا دَائِمًا

یکتا بے نیاز فرد اکبلا زندہ قائم ہمیشہ رہنے والا

أَبَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَوْلَمْ

نہ بنائی اس نے اپنی بیوی اور نہ لڑکا اور نہیں

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَكَمِيْنٌ لَهُ

ہے کوئی شریک اس کا اس کے ملک میں اور نہیں اس کا کوئی

وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيِ وَكَثْرَةُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ

دوست دلت سے اور اس کی خوب بڑائی بیان کر اللہ بہت بڑا ہے

حَسْبُنَا اللَّهُ لِيَدِينَنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِيَدِينَنَا

کافی ہے اللہ ہمیں ہمارے دین کیلئے کافی ہے ہمیں اللہ ہماری دنیا میں

حَسْبُنَا اللَّهُ لِيَمَّا أَهَمَّنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَنْ

کافی ہے اللہ ہمیں ہماری ہر مشکل میں کافی ہے اللہ ہمیں ہم پر بغاوت

بَغَى عَلَيْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنَا حَسْبُنَا

کہ نبوالے سے کافی ہے اللہ ہمیں ہمارے ساتھ حسد کرنے والے سے، کافی ہے

اللَّهُ لِمَنْ كَادَنَا بِسُوءٍ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ

اللہ ہمیں ہمارے ساتھ برائی کا مکر کرنے والے سے کافی ہے اللہ ہمیں وقت

الْمَوْتِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْقَبْرِ حَسْبُنَا

مرنے کے - اللہ ہمیں کافی ہے قبر کے وقت - اللہ ہمیں کافی

اللَّهُ عِنْدَ الْمَسَائِلِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ

ہے سوالوں کے وقت اللہ ہمیں کافی ہے پل صراط

الصِّرَاطِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْحِسَابِ

کے وقت - اللہ ہمیں کافی ہے حساب کے وقت

حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ

اللہ ہمیں کافی ہے میزان کے وقت - اللہ ہمیں کافی ہے

عِنْدَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْفَقْدِ

جنت اور دوزخ کے وقت - اللہ ہمیں کافی ہے دیدار کے وقت

حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

اللہ مجھے - کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

ہے اور اسی کی طرف میں پھروں گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پاک ہے

اللَّهُ مَا أَعْظَمَ اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

خدا کیا بزرگ ہے - اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پاک ہے

اللَّهُ مَا أَخْلَمَ اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ کتنا بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پاک ہے

اللَّهُ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

اللہ کیا بخشش والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے

لَا شَرِيكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ حَقًّا

اس کا کوئی شریک نہیں محمد یقیناً اللہ کے رسول ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا ذَكَرَهُ

اے اللہ رحمت کر محمد پر جب تک ذکر کریں

الذَّاكِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ذکر کرنے والے اے اللہ رحمت کر محمد پر

كَمَا غَفَلَ عَنِ ذِكْرِهَا الْغَافِلُونَ رَضِينَا

جب تک غفلت کریں اس کے ذکر سے غافل راضی ہیں ہم

بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّنَا بِإِسْلَامِ دِينِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَسِرَّ سَوْلًا وَ

صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر اور

بِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَقِبْلَةَ الْقِبْلَةِ وَالصَّلَاةِ

قرآن کے پیشوا ہونے پر اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر اور نماز کے

فَرِيضَةٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا وَبِالصِّدِّيقِ

فریض ہونے پر اور مومنوں کے بھائی ہونے پر اور صدیق اکبر

وَبِالْفَارُوقِ وَبِذِي النُّورَيْنِ وَبِالْمُرْتَضَى

اور فاروق اعظم اور ذوالنورین اور علی مرتضیٰ کے

أَثْمَهُ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

انما ہونے پر رضا ہو اللہ تعالیٰ کی ان سب پر

مَرْحَبًا بِالصَّبَاحِ الْجَدِيدِ وَبِالْيَوْمِ السَّعِيدِ

خوشخبری ہو نئی صبح کی اور مبارک دن کی

وَبِالسَّلَكَيْنِ الْكَارِتَبَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ

اور دو نکلنے والے فرشتوں کو جو انصاف کرنیوالے

الْعَادِلَيْنِ حَيَّاكُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي غُرَّةِ يَوْمِنَا

گواہ ہیں زندہ رکھے اللہ برتر تم دونوں کو ہمارے اس دن کے شروع میں

هَذَا الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ صَحِيفَتِنَا بِسْمِ اللَّهِ

لکھو ہمارے نامہ اعمال کی ابتداء میں اللہ کے نام سے

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَشْهَدُ أَنَا نَشْهَدُ

شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے اور گواہ ہو جاؤ ہماری اس شہادت پر

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں

وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ

اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں

أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

بیمبا اللہ نے آپ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے

عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

سب دینوں پر اگرچہ مشرک ناپسند کریں

عَلَىٰ هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيِي وَعَلَيْهَا نَمُوتُ

اسی شہادت پر ہماری زندگی ہے اور موت ہے

وَعَلَيْهَا نَبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعُوذُ

اور اسی پر اٹھائے جائیگی اگر اللہ برتر نے چاہا۔ پناہ مانگتا ہوں

بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ

اللہ کے تمام مکمل کلمات کے ساتھ ہر مخلوق کی

مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ

بدی سے ، اللہ کے نام سے جو ناموں میں بہترین ، اللہ کے نام سے جو

سَمَاءِ الْأَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ

پروردگار ہے زمین اور آسمانوں کا اللہ کے نام کے ساتھ

الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي

کہ نہیں ضرر دیتی اس کے نام کے ساتھ کوئی شے زمین

الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

میں اور نہ آسمان میں اور وہ سننے جاننے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا مَاتْنَا

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے مہلکہ اس نے

وَالْيَهُ الْبَعْثُ وَاللُّشُورُ أَصْبَحْنَا وَآصْبَحَ

اور اسی کی طرف حشر اور نشر ہے صبح کی ہم نے اور

السُّلْكَ لِلَّهِ وَالْعِزَّةُ وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ

ملک نے اللہ کی ہے اور عزت اور عظمت اللہ کے لئے ہے اور

الْكِبْرِيَاءُ وَالْجَبْرُوتُ وَالسُّلْطَانُ وَ

بڑائی اور بزرگی اور بادشاہی اور

الْبُرْهَانُ لِلَّهِ وَالْآيَةُ وَالنِّعْمَاءُ لِلَّهِ وَاللَّيْلُ

دلیل اللہ کے لئے ہے اور نعمتیں ظاہری اور باطنی اللہ کی ہے اور رات

وَالنَّهَارُ لِلَّهِ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

اور دن اللہ کے لئے ہے اور جو ان دونوں میں ہے اللہ کی ہے جو اکیلا

الْقَهَّارِ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةَ

غالب ہے ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ

الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

اخلاص پر اور ہمارے نبی محمد کے دین پر صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ

اللہ علیہ وسلم اور ہمارے باپ ابراہیم کی ملت پر



حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

جو حق کی طرف مائل، مسلمان تھے اور مشرکین سے نہ تھے

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

رحمتیں اللہ کی اور استغفار فرشتوں اور نبیوں اور

رُسُلِهِ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ

رسولوں اور حاملین عرش اور درود اس کی تمام مخلوق کا ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

ہمارے سردار محمد اور ان کی آل اور اصحاب پر

عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

آپ پر اور سب پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت

وَبَرَكَاتُكَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

اور برکتیں ہوں۔ درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے

اللَّهُ مَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ

رسول درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے

اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَلِيلَ اللَّهِ

حبیب درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ

دوست درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے نبی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا صَفِيَّ اللَّهِ

درود و سلام ہو آپ پر اے چنے ہوئے اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ

درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کی مخلوق سے بہتر

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَنْ اخْتَارَكَ اللَّهُ

درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پسندیدہ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَنْ أَرْسَلَ اللَّهُ

درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَنْ زَيْنَهُ اللَّهُ

درود و سلام ہو آپ پر اے زینت دئے گئے اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَنْ شَرَّفَهُ اللَّهُ

درود و سلام ہو آپ پر اے شرف یافتہ اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَنْ كَرَّمَهُ اللَّهُ

درود و سلام ہو آپ پر اے عزت دئے گئے اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ

درود و سلام ہو آپ پر اے عظمت دئے ہوئے اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ

درود و سلام ہو آپ پر اے سرور رسولوں کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا إِمَامَ الْمُتَّقِينَ ط

درود و سلام ہو آپ پر اے متقیوں کے پیشوا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط

درود و سلام ہو آپ پر اے سر نبیوں کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمَذْنُوبِينَ ط

درود و سلام ہو آپ پر اے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ رَبِّ

درود و سلام ہو آپ پر اے رب العالمین کے

الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ

رسول رحمتیں ہوں اللہ کی اور اس کے فرشتوں اور

أَنْبِيَآئِهِ وَرُسُلِهِ وَحَمَلَةِ عَرْشِهِ وَجَمِيعِ

نبیوں اور رسولوں اور حاملین عرش اور اس کی تمام

خَلْقِهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

مخلوق کی ہمارے سردار محمد اور ان کی آل اور اصحاب پر

عَلَيْهِمُ وَالسَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ

آپ پر اور ان سب پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور

بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

برکتیں ہوں اے اللہ رحمت کر ہمارے سردار محمد پر

فِي الْأَوَّلِينَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہلوں میں اور رحمت کہہ ہمارے سردار محمد پر

فِي الْآخِرِينَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پچھلوں میں اور رحمت کہہ ہمارے سردار محمد پر

فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَصَلَّى

برتر گروہ میں قیامت کے دن تک اور رحمت کہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ

ہمارے سردار محمد پر ہر وقت اور زمانہ میں

وَصَلَّى عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ

اور رحمت کہ تمام نبیوں اور رسولوں اور اپنے

عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ

نزدیکی فرشتوں پر اور اپنے نیک بندوں

الصَّالِحِينَ وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

پر اور اپنے فرمانبرداروں سب پر

وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اور رحم کہ ہم پہان کے ساتھ اپنی رحمت سے اے بہت رحم والے رحم کرنے والوں کے

# دعاے رِقَاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ يَا مَلِكَ الرِّقَابِ وَيَا مُفْتِحَ

اے اللہ اے گروہوں کے مالک اور اے دروازوں

الْاَبْوَابِ وَيَا مُسَيِّبَ الْاَسْبَابِ هَيِّئْ

کے کھولنے والے اور اے اسباب پیدا کرنے والے تیار کر دے

لَنَا سَبَبًا لَا نَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا اَللّٰهُمَّ

ہمارے لئے وہ سبب کہ نہ رکھیں ہم اسکی طلب اے اللہ

اجْعَلْنَا مَشْغُولِيْنَ بِاَمْرِكَ اِمِيْنِ بَعْدَكَ

ہمیں اپنے امر میں مشغول کر اپنے عدل سے بے خون کر

الْاَسِيْنِ مِنْ خَلْقِكَ اِنِّيْ اَتُكِّدُ

اپنی خلقت سے بے امید اپنے ساتھ مانوس

مَتَوْحِشِيْنَ عَنْ غَيْرِكَ رَاضِيْنَ بِقَضَائِكَ

اپنے غیر سے وحشت زدہ اپنی قضا و حکم پر راضی رکھ

صَابِرِينَ عَلَى بَلَاءِكَ قَانِعِينَ بِعَطَاكَ

صبر کر نیوالا اپنی نازل شدہ بلا پر ، تیری عطا پر قناعت کر نیوالا

شَاكِرِينَ لِنِعْمَاتِكَ مُتَلَذِّذِينَ بِذِكْرِكَ

تیری نعمتوں کا شکر گزار تیرے ذکر سے لذت پانے والا

فَرِحِينَ بِكِتَابِكَ مُنَاجِينَ بِكَ فِي آثَارِ

تیری کتاب پر خوش مناجات کرنے والے تجھ سے راتوں

النَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ مُبْغِضِينَ لِلدُّنْيَا

میں اور دن کے کناروں میں دنیا سے بغض رکھنے والے

وَمُحِبِّينَ لِلْآخِرَةِ مُشْتَاقِينَ إِلَى لِقَائِكَ

آخرت سے محبت رکھنے والے تیری ملاقات کے مشتاق

مُتَوَجِّهِينَ إِلَى جَنَابِكَ مُسْتَعِدِّينَ

تیری جناب کی طرف توجہ کر نیوالے موت کی تیاری کرنے

لِلسَّمَوَاتِ رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ

والے اے ہمارے پروردگار دے ہیں جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسل کی

وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

زبان سے ، اور قیامت میں ہمیں ذلیل نہ کرنا بے شک تو وعدہ خلافی نہیں

الْبَيْعَاتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ التَّوْفِيقَ سَرَفِي قِنَانًا

کرتا اے اللہ توفیق کو ہمارا ساٹھی بنا

وَالصِّرَاطَ السُّتَقِيمَ طِرْيَقَنَا اللَّهُمَّ

اور سیدھا راستہ راہ ہماری اے اللہ

أَوْصَلْنَا إِلَى مَقَاصِدِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ

پہنچا ہمیں طرف ہمارے مقاصد کی اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو

أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا

توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے اے اللہ ہم نے تیری وجہ سے صبح کی

وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَ

اور تیرے ہی نام پر صبح کی اور تیرے سبب سے ہی ہم زندہ اور مرتے ہیں اور

إِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى

تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے اللہ دے ہمیں لذت نظر کی اپنی ذات کی

وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ

طرف اور شوق اپنی ملاقات کا اے اللہ ہمیں حق دکھا

حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارْزُقْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ

اور حق کی اتباع نصیب فرما اور باطل ہمیں باطل دکھا اور

ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ

ہمیں اس سے دور رکھ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں دکھا

كَمَا هِيَ تَوْفَنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ

جیسے وہ ہیں ہمیں مسلمان فوت کر اور نیکوں کے ساتھ ملا

وَاذْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظُّلَمِيِّينَ وَشَارِكِنَا فِي دُعَائِهِ

اور دفع کر ہم سے فساد ظالموں کا اور شریک کر ہمیں مومنوں کی

النُّومِيِّينَ وَنَبِّهْنَا عَنِ تَوْمَةِ الْغُفْلِيِّينَ وَ

دعا میں اور جگا ہمیں غافلوں کی نیند سے اور

ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَادْخِلْنَا

نصیب کر ہمارے شفاعت رسولوں کے سردار کی اور داخل کر ہمیں

الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ اِمِينٍ وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ

جنت میں سلامتی و امن کے ساتھ اور اٹھا ہمیں ساتھ پرہیزگاروں کے

وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ الدُّعَاءِ غُفْرًا

اور نجات دے ہمیں دوزخ سے پناہ دینے والے اے اللہ بخش دے

رَا مَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو

اللَّهُمَّ اَرْحَمَ اُمَّةٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

اے اللہ رحم فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت

وَسَلِّمْ اَللَّهُمَّ اَنْصُرْ اُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

پر اے اللہ مدد فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اَفْتَحْ رَا مَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی امت کی اے اللہ فتح دے حضرت محمد صلی اللہ



صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ

عِيسَى وَسَلَّمَ كُو اے اللہ درست کرو کے کام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَرِّجْ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اے اللہ دور فرما

عَنْ أُمَّةٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مصائب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے

اللَّهُمَّ كَرِّمُ أُمَّةٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

اے اللہ عزت دے امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ عَظْمَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

اے اللہ عظمت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ أُمَّةٍ سَيِّدِنَا

کی امت کو اے اللہ درگزر فرما حضرت محمد صلی اللہ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَا حَبِيبِ

عِيسَى وَسَلَّمَ كُو اے اللہ اے توبہ کرنے والوں

التَّوَّابِينَ تَبِّ عَلَيْنَا وَيَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ

کے دوست ہماری توبہ قبول فرما اور اے خوفزدوں کو امان دینے والے

إِمْنَا وَيَا دَلِيلَ الْمُتَجِيبِينَ دُلْنَا وَيَا هَادِيَ

ہمیں امان دے اور اے حیران لوگوں کے رہنما ہماری رہنمائی فرما اور اے ہادی

الْمُضِلِّينَ اهْدِنَا وَيَاغِيَاثَ السُّتَغِيثِينَ

گمراہوں کے ہدایت دے ہم کو اور اے فریادپوں کے فریادرس

أَغْنِنَا وَيَا سِرَّجَاءَ السُّنْقَطِيِّينَ لَا تَقْطَعُ رِجَالَنَا

ہماری فریاد سن۔ اور اے بے امیدوں کی امیدگاہ ہماری امید قطع نہ فرما

وَيَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ اِرْحَمْنَا وَيَا غَافِرَ

اور اے گنہگاروں پر رحم کرنے والے ہم پر رحم فرما اور اے خطاکاروں کو

الْمُذْنِبِينَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفْرَ عَنَّا

بخشنے والے بخش ہمارے گناہ اور مٹادے ہماری

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

برائیاں اور موت دے ہمیں نیکوں کے ساتھ اے اللہ ہمارے گناہ

ذُنُوبَنَا اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عِيُوبَنَا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ

بخشن دے اے اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے اے اللہ ہمارے دل

صُدُورَنَا اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْ قُلُوبَنَا اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ

کھول دے اے اللہ حفاظت فرما ہمارے دلوں کی اے اللہ منور فرما

قُلُوبَنَا اَللّٰهُمَّ لِيَسِّرْ اُمُورَنَا اَللّٰهُمَّ حَصِّلْ

ہمارے دلوں کی اے اللہ ہمارے کام آسان فرما اے اللہ ہماری مرادیں

مُرَادَنَا اَللّٰهُمَّ تَقْصِرْ تَقْصِيرَنَا اَللّٰهُمَّ بِنَجَاتِنَا

پوری فرما اے اللہ ہماری کمی پوری فرما اے اللہ نجات دے

مِسَاخَاتٍ يَخْفَى الْأَلطَابِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

ہم کو جس سے ہم خوف کرتے ہیں اسے چھپے بہر واسلے اسے اللہ بخش ہم کو

وَلِوَالِدَيْنَا وَلِإِسَائِدَتِنَا وَوَلِأَصْحَابِنَا

اور ہمارے والدین کو اور ہمارے مشائخ کو اور ہمارے استادوں اور دوستوں

وَلِأَحْبَابِنَا وَلِعَشَائِرِنَا وَلِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَهُ

اور احباب اور قبیلے اور ناستے والوں کو اور جس کا ہم پر

حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيعِ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ

کوئی حق ہے اور تمام امت محمد مصطفیٰ کو ان پر

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقِنَارِنَا شَرَّمَا قَضَيْتِ

درود و سلام ہو اسے اللہ بجا ہم کو اس آفت سے جو تو نے حکم کیا

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ

اور بجا ہم کو دوزخ کے عذاب اور قبر کے عذاب اور یوم قیامت

يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْأَبْرَارِ

کے عذاب سے اور ہمارا پر ہمیر گاروں اور نیکوں کے ساتھ حشر فرما

اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَوْرَادِ الْفَتْحِيَّةِ

اسے اللہ طفیل ان اوراد فتحیہ کے

افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْعِنَايَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَ

کھول ہمارے لئے عنایتوں اور کرامتوں کے دروازے

وَوَفَّقْنَا لِلطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَاحْفَظْنَا

اور توفیق دے ہمیں بندگی اور عبادات کی اور محفوظ رکھ ہم کو

مِنَ الْأَفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَبَارِكْ لَنَا فِي

آفتوں اور بلاؤں سے اور برکت دے ہمیں

الرِّزْقِ وَالْعُمُرِ وَالْحَسَنَاتِ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا

رزق اور عمر اور نیکیوں میں اے اللہ حفاظت فرما

يَافِيَاضُ مِنْ جَمِيعِ الْبَلَايَا وَالْأَمْرَاضِ

ہماری اے فیاض تمام بلاؤں اور امراض سے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اور درود بھیجے اللہ اپنی مخلوق سے بہتر محمد اور ان کی آل پر

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اور اصحاب پر سب پر

# سبعات عشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ

سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب ہے سارے جہان کا، مہربان

الرَّحِیْمِ ۝ بِیْكَ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ

نہایت رحم والا۔ مالک قیامت کے دن کا۔ ہم خاص تیری

نَعْبُدُ ۝ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا

بندگی کرتے ہیں اور تیرے سے مدد چاہتے ہیں چلا ہم کو

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ

راہ سیدھی راہ ان کی

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

جن پر تو نے فضل کیا نہ جن پر غصے ہوا

وَالَّذِیْنَ هُمْ

(سات دفعہ)

اور نہ گمراہوں کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی ، لوگوں کے بادشاہ کی

اِلٰهِ النَّاسِ

لوگوں کے معبود کی ، برائی سے جو سنکارے اور چھپ جائے

الَّذِیْ یُوسِوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ

وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

(سات دفعہ)

جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی ہر چیز کی بدی سے جو اس نے

خَلَقَ

بنائی اور بدی سے اندھیری کی جب ہمٹا آوے

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ

اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونکیں اور

شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَهُ (سات بار)

بدی سے برا چاہنے والے کے جب لگے ہونے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ

تو کہہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے

يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

کسی کو جنما نہ کسی سے جنما گیا اور نہیں ہے اس کے

كُفُوًا أَحَدٌ (سات بار)

جوڑ کا کوئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا

تو کہہ دے اے مسکرو میں نہیں پوجتا جس کو

تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا

تم پوجو اور نہ تم پوجو جس کو

أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا تُعْبُدُونَ

میں پوجوں اور نہ مجھ کو پوجنا جس کو تم نے پوجا

وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُهُ لَكُمْ

اور نہ تم کو پوجنا جس کو میں پوجوں تم کو

دِينِكُمْ وَلِي دِينُهُ (سات بار)

تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں جیتا ہے سب کا تقاضے والا نہیں بچرتی

سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

اس کو اونٹنگ اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمان

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

اور زمین میں ہے کون ایسا ہے جو سفارش کرے

عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

اس کے پاس مگر اس کے اذن سے جانتا ہے جو غلق کے رو برو ہے

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

اور جو پیٹھ پیچھے ہے اور یہ نہیں گھیر سکتے اس کے

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

علم میں سے کچھ مگر وہ جو چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں



السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا

آسمان اور زمین کو اور تنگتا نہیں ان کے تقاضے سے

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي

اور وہی ہے اور سب سے بڑا زور نہیں دین کی

الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

بات میں کل سچی ہے صلاحیت اور بے راہی

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

اب جو کوئی منکر ہو مفسد سے اور یقین لاوے اللہ پر

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ

اس نے پکڑی گہ مضبوط جو ٹوٹنے والی نہیں

لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ

اور اللہ سنا اور جانتا ہے اللہ کام بنانے والا

الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے

إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيئِهِمْ

اہلے میں اور وہ جو منکر ہیں ان کے رفیق ہیں

الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى

شیطان نکالتے ہیں ان کو اہلے سے

الظُّلُمَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

اندھیروں میں وہ ہیں دوزخ والے وہ

فِيهَا خَالِدُونَ ۗ (سات دفعہ)

اسی میں رہ پڑے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا

پاک ہے اللہ کو اور سب تعریف واسطے اللہ کے اور نہیں کوئی معبود سوائے

اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اللہ کے اور اللہ بزرگ تر ہے اور نہیں طاقت پھر نیکی گناہوں اور میں طاقت عباد کی

إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۗ (سات بار)

سوائے توفیق اللہ بلند بزرگ کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَزِينَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَ

گنتی اس چیز کی جو جانتا ہے اللہ اور وزن جو جانتا ہے اللہ اور

مِثْلَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ (تین بار) تَبَرَّأْتُ

بڑھ کر جو جانتا ہے اللہ ہزار ہوا میں

مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي وَالْجَأْتُ إِلَى حَوْلِ اللَّهِ وَ

پہرے سے اپنے کے اور قوت سے اور پناہ بکٹری میں نے طرف پھرنے کے اور

قُوَّتِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِي - (ایک دفعہ)

قوت اللہ کی توجہ تمام اپنے کاموں کے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَتَبِيبِكَ

اے اللہ رحمت بھیج اوپر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بندے اپنے اور نبی اپنے

وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ

اور حبیب اپنے اور رسول اپنے نبی امی کے اور ان کی آل

وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ - (سات دفعہ)

اور اصحاب پر اور برکت اور سلام بھیج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا

اے اللہ بخش مجھ کو اور ماں باپ میرے کو اور رحم کر ان پر جیسا کہ

وَتَبِيبِي صَغِيرًا وَاغْفِرْ اللَّهُمَّ لَجَمِيعِ

بلا انہوں نے مجھ کو لڑکپن میں اور بخش اے اللہ واسطے اللہ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَ

مومنوں مردوں اور مومنوں عورتوں اور مسلمان مردوں اور

الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

مسلمان عورتوں کے زندہ ان میں سے اور مرے ہوئے کے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ (سات دفعہ)

اپنی رحمت کے ساتھ اے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَ

اے اللہ اے رب کہ میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی

اجِلًا فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور آہستگی سے دین اور دنیا اور آخرت میں

مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا

وہ بات جو اسکے لئے لائق ہے اور نہ کہ ہمارے ساتھ اے مولا ہمارے

مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وہ کام جو ہمارے لئے لائق نہیں تحقیق تو بخشنے والا متحل

جَوَادُهُ كَرِيمُهُ سَلِكُهُ بَرُّهُ رَعُوفُهُ

سخی بزرگ بادشاہ پاک مہربان

رَحِيمُهُ (سات دفعہ)

رحم والا۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِرَأْفَتِكَ يَا نَافِعٌ وَمُرَافِعٌ

اے اللہ ہدایت کر مجھ کو مہربانی اپنی سے اے نفع دینے والے اور بلندی دینے والے

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

فوت کر مجھ کو مسلمان اور ملا مجھ کو ساتھ نیکوں کے

چھ دفعہ يَا جَبَّارُ (اکیس دفعہ)

اے زبردست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبْحَانَ

پاک ہے اللہ برتر جزا دینے والا پاک ہے اللہ

اللَّهِ الْعَلِيِّ الدَّيَّانِ سُبْحَانَ اللَّهِ الشَّدِيدِ

تعالیٰ بلند بدلہ دینے والا پاک ہے اللہ زبردست قدرت

الْأَزْكَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ

والا پاک ہے اللہ ہر مکان میں تسبیح کیا ہوا

مَكَانٍ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَشْغُلُهُ شَأْنٌ عَنْ

پاک ہے وہ ذات جسے کوئی حال مشغول نہیں کرتا

شَانَ سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي

پاک ہے وہ جو لیجاتا ہے رات کو اور لاتا ہے

بِالنَّهَارِ - اور اگر بعد عصر پڑھے تو یوں کہ سُبْحَانَ

دن کو پاک ہے

مَنْ يَذْهَبُ بِالنَّهَارِ وَيَأْتِي بِاللَّيْلِ (تین بار)

وہ جو لیجاتا ہے دن کو اور لاتا ہے رات کو

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ عَلَىٰ حَلِيمِكَ

پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ اپنے علم فرمانے پر

بَعْدَ عَلَيْكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ

باوجود جاننے کے پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ

عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ سُبْحَانَ

اپنی عفو پر باوجود قدرت اپنی کے پاک ہے وہ

مَنْ لَهُ لَطْفٌ خَفِيٌّ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ

جو لطف خفی کا مالک ہے پس پاک ہے اللہ جب تم شام کرتے

تَسْبُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ

ہو اور جب تم صبح کرتے ہو اور اسی کے لئے حمد ہے

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ

آسمانوں اور زمین میں اور عشاء کے وقت اور جب

تُظْهِرُونَ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

ظہر کرتے ہو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے

وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ

اور یونہی نکالے جاؤ گے تم پاک ہے تیرا رب صاحب عزت

الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى

اس سے جو ناخدا شناس کہتے ہیں اور سلام ہو اوپر

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مُرسَلین کے اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کیلئے ہے

(ایک بار)

هَذِهِ الْأَسْمَاءُ السَّبْعُ مِنْ أَوْرَادِ

یہ نام سات وردوں

السَّيِّخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ

شیخ عبد القادر جیلانی سے ہیں

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ تَوَجُّهَاتِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے ساتھ رجوع دل کے

هَيْسَتْ كَلِيدِ دِرْجِ كَيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہے کنجی دروازہ خزانہ خدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ

سب تعریف واسطے اللہ پروردگار عالموں کے اور درجہ عاقبت کے

لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ

واسطے پرہیزگاروں کے ہے اور درود و سلام اس کے رسول پر

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

جو خاتم ہیں نبیوں کے سینا محمد اور ان کی آل اور اصحاب



أَجْمَعِينَ هُ أَمَّا بَعْدُ سَيَدْنَا وَمَوْلَانَا حَجَّةَ الْحَقِّ

تمامیوں پر اسے پراس کے بعد سردار اور مولانا وسیل حق

الی الخلیق شیخ عبدالقادر الجیلی قدس سرہ

طرف خلقت کے شیخ عبدالقادر جیلانی پاک ہو بھید اس کا

عدد اسنما کہ آنحضرت التزام دعوت آہنا

شمار ناموں کے جو اس حضرت نے لازم پکڑنا ان دعوات کا

فرمودہ و برائے ہر اسے توجہ سے اسخندہ کہ ال توجہ

فرمایا اور واسطے سب نام کے توجہ کی کہ اس توجہ کے

بعد از صد بار یا پانصد بار اسم خواندہ شود و

بعد ایک سو بار یا پانسو بار نام پڑھا جاوے اور

برکات آل ظاہر و باہر ست۔

برکتیں اس کی ظاہر اور روشن ہیں۔

اسم اولیٰ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَكْلَمُ بَار تَوْبِحْش

نام اول نہیں کوئی خدا لائق عبادت کے سوا اللہ کے ایک کلمہ توجہ اسکی

اینست إِلَهِي أَظْهَرَ عَلَى ظَاهِرِي سُلْطَان

یہ ہے اے میرے اللہ! ظاہر کہ میرے ظاہر حال پر بادشاہی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں کوئی معبود خدا لائق عبادت کے سوا اللہ کے نہیں کوئی خدا لائق عبادت کے سوا اللہ کے نہیں کوئی خدا لائق عبادت کے

إِلَّا اللَّهُ وَحَقِّقْ بِأَطْنِ بِحَقَائِقِ

سوائے اللہ کے اور تحقیق کہ باطن میرے پر حقیقتوں کے ساتھ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْرِقْ فِيكَ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور مشغول کر اپنی طرف

ظَاهِرِي بِأَحَاطَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ظاہر میرا ساتھ گھیر لینے کے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

وَاحْفَظْنِي اللَّهُمَّ بِكَ لَكَ فِي مَرَاتِبِ

اور نگاہ رکھ مجھ کو اے اللہ ساتھ تیرے مرتبوں

وَجُودِكَ وَشُهُودِكَ حَتَّى لَا أَشْهَدُ

ذات تیری کے اور تیرے مشاہدہ کے تاکہ نہ دیکھوں میں

غَيْرَ أَفْعَالِكَ وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِ الْحَقِّ

سوائے کاموں کے اور تیری صفتوں کے ساتھ ذات حق کے

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وہ ذات کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اسْمِ ثَانِي

مگر اللہ ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ - نام دوسرا

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَار تَوْجِشِ ائِسْتِ

اللہ اللہ اللہ ایک لاکھ دفعہ، اس کی توجہ یہ ہے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ دُلِّي بِكَ عَلَيْكَ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ راستہ بتلا مجھ کو اپنا

وَأَسْرُقُنِي الثُّبَاتِ عِنْدَ وُجُودِكَ مَا

اور نصیب کر مجھ کو ثابت رہنا نزدیک ذات اپنی کے یہ کہ

أَكُونُ مُتَّادِيًا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا اللَّهُ

ہو جاؤں میں ادب کرنے والا تیرے سامنے اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ إِلَهِي بِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ

اے اللہ اے اللہ اے بار خدایا ساتھ بندگی اور شان تیری کے

ارْزُقْنِي حُبِّكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا إِلَهِي

نصیب کر مجھے محبت اپنی اے اللہ اے اللہ اے بار خدایا

اجْعَلْ قَلْبَ عَبْدِكَ الضَّعِيفِ مَظْهَرًا

کر دل بندے اپنے ضعیف کا جگہ ظاہر ہونے کی

لِذَاتِكَ وَمَنْبَعًا لِآيَاتِكَ يَا اللَّهُ يَا إِلَهِي

واسطے ذات اپنی کے اور جگہ پیدا ہونے آیات اپنی کے اے اللہ اے اللہ

يَا اَللّٰهُ اَسْمُ ثَالِثٍ: حَى حَى حَى يَكُّ لَكُّ بَار

اے اللہ۔ نام تیسرا زندہ زندہ زندہ ایک لاکھ دفعہ

تو ہمیشہ اینست يَا حَى يَا حَى يَا حَى اَحْيِيْنِيْ

اس کی توجہ یہ ہے اے زندہ اے زندہ اے زندہ زندہ رکھ مجھ کو

حَيٰوَةٌ طَيِّبَةٌ وَّاسْقِنِيْ مِنْ شَرَابِ حُبِّيْكَ

زندگی پاک اور پلا مجھ کو شراب محبت اپنی سے

اَعْدَبَةٌ وَّاَطِيْبَةٌ يَا حَى يَا حَى يَا حَى

بہت میٹھا اور بہت صاف اے حی اے حی اے حی

اَللّٰهُ حَقَّقْ حَيَاتِيْ بِكَ يَا حَى يَا حَى يَا حَى

اے اللہ ثابت کر زندگی گانی میری ساتھ اپنے اے حی اے حی اے حی

اَللّٰهُ اَظْهَرْ نُوْرَ حَيَاتِكَ فِيْ حَيَاتِيْ

اے اللہ ظاہر کر نور زندگی اپنی کا میری زندگی میں

يَا حَى يَا حَى يَا حَى اَللّٰهُ اَحْيِيْ رُوْحِيْ حَيٰوَةٌ

اے حی اے حی اے حی اے اللہ زندہ کر روح میری ساتھ حیاتی

اَبَدِيَّةٌ وَّمَتِّعْ سِرِّيْ بِسِرِّكَ فِي

قدیم کے اور نفع مند کر بھید میری ساتھ بھیدا اپنے کے

اَلْحَضْرَاتِ الشُّهُودِيَّةِ وَاْمَلْ اَقْلِبِيْ

وقت حاضر ہونے قیامت کے اور پڑ کر دل میرا

بِالسَّعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ وَأَطْلِقْ لِسَانِي

ساتھ معرفت ربانی کے اور ہلا زبان میری

بِالْعُلُومِ اللَّذِيَّةِ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ

ساتھ علوم لدنی کے اے حی اے حی اے حی

اَسْمُ الْبَلِغِ : وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ

نام پورنقا واحد واحد واحد

يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

ایک لاکھ بار، تو ہمیشہ اینت اے اکیلے اے اکیلے

يَا وَاحِدٌ اجْعَلْنِي مَوْجِدًا بِنُورِ

اے اکیلے کر مجھ کو توجید والوں سے ساتھ نور

وَاحِدًا بِنَيْتِكَ مُؤَيَّدًا بِكُشُودِ

وحدانیت اپنی کے اور مدد دیا گیا ساتھ دیکھتے

فَرْدًا بِنَيْتِكَ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

تنہائی اپنی کے اے اکیلے اے اکیلے اے اکیلے

إِلٰهِ أَنْتَ الْمُنْتَوَجِدُ فِي ذَاتِكَ بِالْوَهْيِ

اے اللہ تو اکیلے ہے اپنی ذات میں ساتھ خدائی اپنی کے

يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

اے اکیلے اے اکیلے اے اکیلے

اسم خامس: عَزِيزٌ عَزِيزٌ عَزِيزٌ لکھ بار

نام پانچواں عزیز عزیز عزیز ایک لاکھ دفعہ

تو ہمیشہ اس سے یَا عَزِيزُ یَا عَزِيزُ

اس کی توجہ یہ ہے اے عزیز اے عزیز

یَا عَزِيزُ اجْعَلْنِي بِعِزَّتِكَ مِنَ الْعَزِيزِ

اے عزیز کہ مجھ کو ساتھ عزت اپنی کے عزت والوں سے

بَيْنَ يَدَيْكَ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

سامنے اپنے اے عزیز اے عزیز اے عزیز

اسْتَعْمِلْنِي بِأَعْمَالِ الْعَزِيزِ لَدَيْكَ

کرا مجھ سے کام عزت والوں کے اپنے ہاں کے

يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ اعْزِزْنِي

اے عزیز اے عزیز اے عزیز اے اللہ عزت دے مجھ کو

بِعِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ اجْعَلْنِي

بفضل اپنی عزت کے اے عزیز اے عزیز اے عزیز کر مجھے

مِنَ عِبَادِكَ الْعَزِيزِينَ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

اپنے بندوں عزت والوں سے اے عزیز اے عزیز

یَا عَزِيزُ

اے عزیز

اسم سادس : وَهَّابٌ وَهَّابٌ وَهَّابٌ

نام چھٹا وہاب وہاب وہاب

یک لکھ بار تو بخشش این است

ایک لاکھ دفعہ ، توجہ اس کی یہ ہے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ هَبْ لِي

اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے بخش مجھ کو

مِنْ جَزِيلٍ هَبَاتِكَ مَا يَبْلُغُنِي إِلَى مَرْضِيَّاتِكَ

اپنی بڑی بخشش سے وہ جو پہنچائے مجھ کو طرف رضامندی اپنی کے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي هَبْ

اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے اللہ بخش

لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

مجھے اپنے پاس سے رحمت تحقیق تو ہے بخشنے والا

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي

اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے اللہ

يَا وَاِهَبِ الْاَسْرَارِ هَبْ لِي مِنْ اَسْرَارِكَ

اے بخشنے والے بھیدوں کے بخش مجھ کو اپنے بھیدوں سے

فِيضًا تَجْعَلُنِي بِهٖ دَاثِمًا سَتَحْفِظُنِي

فیض کو کر مجھ کو ساتھ اس کے ہمیشہ حفاظت کرنے والا

لِمَوَاهِبِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

واسطے تیری بخششوں کے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے

اللَّهُمَّ حَقِّقْنِي بِمَوَاهِبِ حَقِيقَةِ حَقِيقَتِكَ

اے اللہ محقق کر مجھ کو ساتھ بخششوں ٹھیک حقیقت اپنی کے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ إِلَهِي كُنْ

اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے اللہ ہو جا

شَاهِدًا عَلَيَّ بِالْإِفْتِقَارِ إِلَى غِنَاكَ

تو گواہ مجھ پر ساتھ محتاج ہونے میرے طرف تیری غنا کے

الْمُطْلَقِ الْكَامِلِ بِالذَّاتِ فَاْمَنْ

جو مطلق کامل بالذات ہے پس احسان کر

عَلَى عَبْدِكَ الضَّعِيفِ بِغِنَىٰ أَكُنْ

اپنے بندے ضعیف پر ساتھ غنا کے ہو جاؤں میں

بِعِزِّي مُغْنِيًّا مَنِ شِئْتُ غِنَاهُ

اس سے غنی بے پرواہ کروں جسے تو چاہے

بِوَصْفِ الْفَقْرِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ

ساتھ صفت فقر کے سامنے اپنے تو بے پرواہ ہے

الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

بخشنے والا اے بخشنے والے اے بخشنے والے اے بخشنے والے



اسم صالح؛ ودود ودود ودود ودود ودود ودود

نام ساتواں ودود ودود ودود گنتی اس کی

یک لکھ بار تو ہمیشہ این ست یاودود یاودود یاودود

ایک لاکھ دفعہ، تو جہاں اس کی یہ ہے اے دوست اے دوست اے دوست

اجعل قلبی واذا لك ياودود ياودود

کر میرے دل کو دوستدار اپنا اے دوست اے دوست

ياودودِ الْهِى اعْطِنِي وَذَانِي قلوبِ عِبَادِكَ

اے دوست اے اللہ بخش مجھے محبت بیچ دلوں بندوں اپنے

المؤمنين ياودود ياودود ياودود الْهِى

مومنوں کے اے ودود اے ودود اے ودود اے اللہ

اَكْفِنِي شَرَّ مَنْ كَفَّيْتَهُ بِيدِكَ ياودود

بند کر شرارت مجھ سے اس کی جس کا بند کرنا تیرے ہاتھ میں ہے اے ودود

ياودود ياودود

اے ودود اے ودود

# اسمائے حقینے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ جَل جَلالہ

وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، وہ بہت بخشنے والا ہے

الرَّحِیْمُ جَل جَلالہ	الْمَلِکُ جَل جَلالہ	الْقُدُّوسُ جَل جَلالہ
------------------------	----------------------	------------------------

بہت مہربان	بادشاہ ظاہر و باطن کے	بہت پاک و بزرگ ہے
------------	-----------------------	-------------------

السَّلَامُ جَل جَلالہ	الْمُؤْمِنُ جَل جَلالہ	الْمُهَيْمِنُ جَل جَلالہ
-----------------------	------------------------	--------------------------

سلامت رکھنے والے	امن دینے والے	نگہبان
------------------	---------------	--------

الْعَزِیْزُ جَل جَلالہ	الْجَبَّارُ جَل جَلالہ	السُّکُّرُ جَل جَلالہ
------------------------	------------------------	-----------------------

غالب ہے مانند	نقصان کو پورا کرنے والے	بزرگ ہے مانند
---------------	-------------------------	---------------

الْمَصُورُ جَل جَلالہ	الْبَارِيُّ جَل جَلالہ	الْخَالِقُ جَل جَلالہ
صورت بنانے والے	پیدا کرنے والے مخلوق کے	پیدا کرنے والے (بڑی شان ہے اس کی)
الْوَهَّابُ جَل جَلالہ	الْقَهَّارُ جَل جَلالہ	الْعَفَّارُ جَل جَلالہ
بہت دینے والے بغیر عوض کے	ہر چیز پر غالب	بخشنے والے گناہ کے
الْعَلِيمُ جَل جَلالہ	الْفَتَّاحُ جَل جَلالہ	الرِّزَّاقُ جَل جَلالہ
ہر چیز کے جاننے والے	کھولنے والے کاموں کے	رزق دینے والے
الْخَافِضُ جَل جَلالہ	الْبَاسِطُ جَل جَلالہ	الْقَابِضُ جَل جَلالہ
پست کرنے والے	کھولنے والے اور روزی بندوں کے	تنگ کرنے والے روزی کے
الْمُذِلُّ جَل جَلالہ	الْمُعِزُّ جَل جَلالہ	الرَّافِعُ جَل جَلالہ
خوار کرنے والے	عزت دینے والے	بندوں کا درجہ بلند کرنے والے
الْحَكَمُ جَل جَلالہ	الْبَصِيرُ جَل جَلالہ	السَّمِيعُ جَل جَلالہ
حکم کرنے والے	دیکھنے والے	نیک سننے والے
الْخَبِيرُ جَل جَلالہ	الْلَطِيفُ جَل جَلالہ	الْعَدْلُ جَل جَلالہ
خبردار ہر چیز کے	باریک بین دور سے	عدل کرنے والے
الْغَفُورُ جَل جَلالہ	الْعَظِيمُ جَل جَلالہ	الْحَلِيمُ جَل جَلالہ
بخشنے والے	ذات وصفات میں بزرگ	بر و باری کرنے والے
الْكَبِيرُ جَل جَلالہ	الْعَلِيُّ جَل جَلالہ	الشُّكُورُ جَل جَلالہ
سب سے بڑے	بلند مرتبہ والے	قدران شکر کرنے والوں کے

الْحَفِيظُ جَل جَلالہ	الْمَقِيْتُ جَل جَلالہ	الْحَسِيْبُ جَل جَلالہ
نگاہ رکھنے والے خلق کے	قوت دینے والے	حساب لینے والے
الْمُكَلِّلُ جَل جَلالہ	الْكَرِيْمُ جَل جَلالہ	الرَّقِيْبُ جَل جَلالہ
بزرگ قدر بے پرواہ	بخشش کرنے والے	نگاہ رکھنے والے خلق کے
الْمَجِيْبُ جَل جَلالہ	الْوٰاسِعُ جَل جَلالہ	الْحَكِيْمُ جَل جَلالہ
قبول کرنے والے دعا کے	وسعت دینے والے	سوار کار، درست گفتار
الْوَدُوْدُ جَل جَلالہ	السَّجِيْدُ جَل جَلالہ	الْبٰاِئِعْتُ جَل جَلالہ
بہت دوست رکھنے والے	بزرگ	اٹھانے والے
الشَّهِيدُ جَل جَلالہ	الْحَقُّ جَل جَلالہ	الْوَكِيْلُ جَل جَلالہ
حاضر	ثابت	کار ساز
الْقَوِيُّ جَل جَلالہ	الْمُتَيِّنُ جَل جَلالہ	الْوَلِيُّ جَل جَلالہ
قوت دینے والے	مضبوط	دوست مومنوں کے
الْحَمِيْدُ جَل جَلالہ	الْمُحْصِي جَل جَلالہ	الْمَبْدِي جَل جَلالہ
اپنی ذات میں تعریف کئے گئے	احاطہ کرنے والے	پیدا کرنے والے
الْمَبْعِيْدُ جَل جَلالہ	الْمُجِي جَل جَلالہ	الْمَبِيْتُ جَل جَلالہ
لوٹا کر پیدا کرنے والے	زندہ کرنے والے	مارنے والے
الْحَيُّ جَل جَلالہ	الْقَيُّوْمُ جَل جَلالہ	الْوٰاْجِدُ جَل جَلالہ
زندہ	قائم	غنی بے پرواہ

الْمَاجِدُ جَل جلالہ	الْوَاحِدُ جَل جلالہ	الْأَحَدُ جَل جلالہ
بزرگی والے	یکت اپنی ذات میں	ایک
الصَّمَدُ جَل جلالہ	الْقَادِرُ جَل جلالہ	الْمُقَدِّرُ جَل جلالہ
بے پرواہ	قدرت والے	قدرت ظاہر کرنے والے
الْمُقَدِّمُ جَل جلالہ	الْمُؤَخِّرُ جَل جلالہ	الْأَوَّلُ جَل جلالہ
آگے دینے والے رسولوں کے	پچھے ڈالنے والے دشمنوں کے	پہلے سب سے
الْأَخْرَجُ جَل جلالہ	الظَّاهِرُ جَل جلالہ	الْبَاطِنُ جَل جلالہ
آخر سب سے	ظاہر اپنی صفوں کے ساتھ	وہم و خیال سے پوشیدہ
الْوَالِيُ جَل جلالہ	الْمُتَعَالِيُ جَل جلالہ	الْبَرُّ جَل جلالہ
مالک کارساز	بہت بلند	نیکوکار
التَّوَّابُ جَل جلالہ	الْمُنْتَقِمُ جَل جلالہ	الْعَفْوُ جَل جلالہ
توبہ قبول کرنے والے	کافروں سے بدلہ لینے والے	معاف کرنے والے
الرَّعُوفُ جَل جلالہ	مَسَالِكُ الْمَلِكِ جَل جلالہ	
مہربان	مالک دوہبان کے	
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَل جلالہ	الْمُقْسِطُ جَل جلالہ	
صاحب بڑی بخشش اور بڑی بزرگی کے	انصاف کرنے والے	
الْجَامِعُ جَل جلالہ	الْغَنِيُّ جَل جلالہ	السَّغْنِيُّ جَل جلالہ
قیامت میں لوگوں کو جمع کرنے والے	بے پرواہ	بے پرواہ کرنے والے

الْمُعْطَىٰ جَل جَلالہ	الْمَنَّاعُ جَل جَلالہ	الضَّارُّ جَل جَلالہ
دینے والے	منع کرنے والے	ضرر پر قدرت والے
النَّافِعُ جَل جَلالہ	النُّورُ جَل جَلالہ	الْمُهَادِي جَل جَلالہ
نفع پہنچانے والے	روشنی بخشنے والے	راہ دکھانے والے
الْبَدِيْعُ جَل جَلالہ	الْبَاقِي جَل جَلالہ	الْوَارِثُ جَل جَلالہ
بے مادہ پیدا کرنے والے	ہمیشہ رہنے والے	رہنے والے بعد فنا خلق کے
الرَّشِيْدُ جَل جَلالہ	الصَّبُوْرُ جَل جَلالہ	الَّذِي لَيْسَ
رہنما عالم کے	برو بار	وہ ذات کہ نہیں
كَيْلَهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ غَفْلَانِكَ رَبَّنَا		
اس کی مانند کوئی اور وہ ہے سنانے والا دیکھنے والا تیری بخشش چاہئے اے ہمارے رب		
وَالَيْكَ الْمَصِيْرُ جَل جَلالہ	نَعْمُ الْمَوْلَىٰ جَل جَلالہ	وَنَعْمُ النَّصِيْرُ جَل جَلالہ
تیری طرف لوٹنا ہے	کیا خوب حمایتی ہے	اور کیا خوب مددگار ہے
سَمِيْعٌ جَل جَلالہ	بَصِيْرٌ جَل جَلالہ	عَلِيْمٌ جَل جَلالہ
سننے والا	دیکھنے والا	جاننے والا
قَدِيْرٌ جَل جَلالہ	مُرِيْدٌ جَل جَلالہ	مُتَكَلِّمٌ جَل جَلالہ
قدرت والا	ارادے والا	کلام کرنے والا

# هَذَا الدُّعَاءُ الْكَبِيرُ

دُعَاءِ کَبِيرِ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ رحمن رحیم کے

يَا حَيُّ حَيِّنَ لَا حَيَّ فِي دِيْمَوْمَةٍ مَلِكِهِ

اے زندہ جبکہ کوئی زندہ نہ ہوگا اپنی ہمیشہ کی بادشاہی کے

وَبَقَاةٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

اور بقا اپنی کے اے زندہ اے قائم

يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِیْمُ يَا مَلِكُ

اے اللہ اے بڑے مہربان اے نہایت رحم والے اے مالک

يَوْمِ الدِّیْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِیْنُ

روز جزا کے ہم خاص تیری عبادت کرتے اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اللّٰهُ يَا رَبُّ

اے زندہ اے قائم اے اللہ اے پروردگار

اَوَامِرٍ هُوَامٍ رَهِيْنٍ نَسْرِيْنٍ پَرِيْنٍ

لہذا سارے الفاظ عبرانی زبان میں ہیں چونکہ بزرگان دین کے معمولات سے ہیں لہذا تبرکاً پڑھ جاتے ہیں۔

اِثِي يَرَمُ هَنَسًا اَوْ اَمَّ اَنَّمُوا  
 مَجْرَانِيَّةٌ مَلِيكَ اَمَلِيكَ اَدَابُ  
 اَمَهَابُ وَاَرِيْسَا اَشْمَنَكَ فَجْرَوْمَنَكَ  
 وَشَبِيكِي وَاَرِي اَوْرِيَا اَمُّ هُوَ كَلَامًا  
 مَلُوْكَ اَسْمِيْنَ اَشْجِيْنَ كَتَانَهْ بَهَانَ  
 مَهَابُ هِيَهْ دَرِنَكَ سَلْكَكَ  
 وَسَلْكَهَكَ وَيَلْكَكَهْ وَيَلْكَهَكَ  
 وَاَجَلُ مِرَايَا خِرَايَا هَمْتَايَا شَايَا  
 وَنَشِيْكَ وَنَشِيْكَ يَادِرِيُوِيَا دِرِي  
 وَاِنَاهِيَا وَمِنِيَا يَامَلِكِنَا شَمِيْنَ كَهْ  
 كَهْمَهْ هَمِيَهْ مَت وَت كَت  
 نَشْتَن شَمِيْنَهْ عِيْنِيْنَ مَلْطَ وَط  
 وَتَهِيَا حِيَايَا مَتَايَا وَاَدِي يُوْدِي  
 كِيْدِي كِيْدِي فَشْكَايَا فَشْكَايَا



بِمَطَايَ مَرْنِكَ شَيْبِي مَلُوي  
 مَتَامَطَا مَضَادِ يَوْهَ أَخِيثَه شَنَكَه خِيك  
 خِيك جَرَا جَرَايَا اِكْرَا اِكْرَايَا بَر بَرَايَا مِرَايَا اِكْرَايَا  
 شَيْبِي فَجْرُ وَيَا شَيْهِيَا وَارْتِيَا شُوب  
 جَرِبَه وَمَنَّا خَزَنَّا عَزَنَّا مَكَّنَّا مَهَنَابَه  
 دِيَوْه دِرِيَا شَنَّا فَشَكِيْنَا وَنَشِيْنَا مَرِيْنَا  
 عَمَّنَّا رَشِيْنَا كَارِكَمْنَا رِفْثِيْنَا خَفْثِيْنَا  
 وَمَا طَلِي كَانِي جُونِي جَرِنِي مَرُوثَا ثَبُوثَا  
 لُوسَا مَقْدَسَا سِرَاسَا هِيرِيَا هَبْت  
 شَادِي مَنَادِي فَرْدُ فَرَايَا شَايَا هَايَا  
 دِيَوْه پَرِيَا ظَفِيْنَا اِحْوَا اِكْفِيْنَا قَمَطُوشَا  
 قَمَطُوشَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

أُورَادُ الْأُسْبُوعِ الشَّرِيفِ

یہ اوراد اسبوع شریف کے ہیں

لِسَيِّدِنَا الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ

ہمارے سید غوث اعظم

أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ

ابو محمد عبد القادر

الْجِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

ورد روز یکشنبه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْجَبِيلُ الرَّحْمَنُ

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جمیل بڑا مہربان

الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْحَلِيمُ الرَّؤُوفُ

بنیاد رحیم والا مہربانی کرنے والا صاحب علم مہربان

الْعَفْوُ السُّؤْمِنُ النَّصِيرُ الْمَجِيبُ

معاف کرنے والا امن دینے والا مددگار دعائیں قبول کرنے والا

السُّغِيثُ الْقَرِيبُ السَّرِيعُ الْكَرِيمُ

فزا سکتے والا نزدیک جلدی حساب لینے والا کرم کرنے والا

ذُو الْاِكْرَامِ ذُو الطَّوْلِ سَرِيبُ الْكُسْنِيِّ مِنْ

صاحب اکرام صاحب حشمت اسے پروردگار پہنا مجھے

جَمَالٍ بَدِيعِ الْاَنْوَارِ الْجَمَالِيَّةِ مَا يَدُهِشُ

جمال بدیع الانوار اس شان کے کہ جو بند کر دیں

ابْوَابِ الذَّرَاتِ الْكُوْنِيَّةِ فَتَوَجَّهَ اِلَى

پیدائشی ذرات کے دروازے پس متوجہ ہوں میری طرف

حَقَائِقِ الْمَكُوْنَاتِ تَوَجَّهَ الْمَرْحَبَةُ الذَّائِبَةُ الْجَاذِبَةُ

حقائق کائنات کے ایسی محبت کی توجہ جو ذاتی ہے جو کھینچنے والی

اِلَى شَهْوٍ مُطْلَقِ الْجَمَالِ الْبَدِيءِ لَا يُضَارَةُ

طرف شہود مطلق جمال کے، وہ جمال جو ضرر نہ دے اسے

قَبْحٌ وَلَا يَقْطَعُ عَنَّا اِيْلَامًا وَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا

کنگ اور نہ منقطع ہو اس سے محبت اور مجھے ہر رحمت سے

مِنْ كُلِّ رَحِيْمٍ رَحِيْمٍ حَكِيْمٍ الْعَطْفِ الْحَقِيْقِيِّ

حصہ عطف کر ساتھ محبت والی ہر باتی کے

الَّذِي لَا يَشُوْبُهُ اِنْتِقَامٌ وَلَا يَنْقُصُ غَضَبٌ

جس میں کسی انتقام کا شائبہ نہیں اور نہ اسے کوئی غضب ناخوش کرتا ہے

وَلَا يَقْطَعُ مَدَدَهُ سَبَبٌ وَتَوَلَّى ذَلِكَ بِحُكْمٍ

اور نہ کوئی سبب اسکی یاوری کاٹ سکتا ہے اور اس بات کی کار سازی اپنی

أَيْدِيَّتِهِ وَأَرْشِيَّتِكَ إِلَى غَيْرِ نِهَائِيَةٍ لَا تَقْطَعُهَا

ابدیت اور اپنے لائے نہایت دوام اور ہمیشگی کے ہمراہ جسے کوئی حد ختم نہیں

غَايَةَ يَارْحِمِ هُوَ الرَّحِيمُ رَبَّاهُ رَبَّاهُ

کرتی اے رحیم تو قیامت میں رحیم ہوگا اے پروردگار اے پروردگار

غَوَّثَاهُ يَا خَفِيًّا لَا يَظْهَرُ يَا ظَاهِرًا لَا يَخْفَى

اے فریاد رس اے پوشیدہ جو ظاہر نہیں ہوتا اے ظاہر کہ مخفی نہیں ہوتا

لَطْفَتِ اسْرَارِ وَجُودِكَ الْاَعْلَى فِتْرَتِي فِي كُلِّ

تیرے اعلیٰ وجود کے اسرار باریک ہیں جنکو ہر موجود میں دیکھا جاسکتا

مَوْجُودٍ وَعَلَتْ اَنْوَارُ ظَهْوَرِكَ الْاَقْدِسِ فِدْتِ

ہے اور تیرے نہایت پاک ظہور کے انوار بلند ہیں جو ہر مشہود

فِي كُلِّ مَشْهُودٍ وَاَنْتَ الْحَلِيمُ الْمَنَّانُ

میں ظاہر ہیں اور تو علم کرنے والا احسان کرنے والا ہے

بِالرَّأْفَةِ وَالْعَفْوِ السَّرِيعِ بِالسَّغْفِرِ تَسْوِمِنُ

مہربانی اور عفو سے جو جلد مغفرت کا ذریعہ ہے (تو) امن دینے والا

الْخَائِفِينَ نَصِيرِ الْمَسْتَغِيثِينَ الْقَرِيبِ

خوف والوں کو فریاد کرنے والوں کا مددگار قریب ہے

بَسَّحُوجِهَاتِ الْقُرْبِ وَالْبَعْدِ عَنِ عَيُونِ

قرب اور بعد کی جہات کو مٹا کر عارفوں کی

الْعَارِفِينَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الطَّلُ

آنکھوں سے اے کریم اے کریم اے حشمت

وَالْإِكْرَامِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

اور بزرگی والے سلامتی ہے قول کی رب رحیم سے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا

## ورد روزِ دوشنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو نہایت رحم والا مہربان ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ

اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ صاحب علم

الرَّحِيمُ الْفَعَّالُ اللَّطِيفُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

رحمت والا فاعل مطلق باریک بین کارساز سراہا گیا

الصَّبُورُ الرَّشِيدُ الرَّحْمَنُ رَبِّ أَذْقَنِي مِنْ

متحمل ہدایت والا مہربان اے رب چکھا مجھے

بَرِّدِ جِلْمِكَ عَلَيَّ مَا أَبْتَهِجُ بِهِ فِي عَوَالِيهِ فَلَا

اپنے علم کی ٹھنڈک جو میری حق میں ہو جس سے میں اپنے سلووات میں خوش ہو جاؤں پس

أَشْهَدُ فِي الْكَوْنِ إِلَّا مَا يَقْتَضِي سُكُونِي

نہ رہوں میں جہاں میں مگر جتنا تقاضا ہو میرے سکون

وَرِضَائِي فَإِنَّكَ الْحَقُّ وَأَمْرُكَ الْحَقُّ وَ

اور رضا کا کیونکہ تو حق ہے اور تیرا امر حق ہے اور

أَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّحِيمُ رَبِّ أَشْهَدُنِي

تو مجھے کام والا مہربان ہے اے رب مجھے ہر ایک

مَطْلُوقٍ فَأَعْلِيَّتِكَ فِي كُلِّ مَفْعُولٍ حَتَّى

مفعول میں اپنی فاعلیت دکھلا دے حتی کہ

لَا أَرَى فَاغْلَاغِيكَ لِأَكُونَ مُطْمَئِنًّا تَحْتَ

تیرے سوا کسی فاعل کو نہ دیکھوں تاکہ میں ہو جاؤں مطمئن

جَرِيَانِ أَقْدَارِكَ مُنْقَادًا لِكُلِّ حَكِيمٍ

تیری تقدیروں کے نیچے (اور) ہو جاؤں مطیع واسطے ہر حکم

وَجُودِي عَيْنِي وَغَيْبِي وَبَرِّزِي يَا نَافِعًا

وجودی، عینی اور غیبی اور برزخی کے اے امر کا

رُوحِ أَمْرٍ فِي كُلِّ عَيْنٍ أَجْعَلُنِي سَنَفِعًا

روح ہر ایک وجود میں بھونکنے والے مجھے امر قبول کرنے والا

فِي كُلِّ حَالٍ لِّمَا يَحُولُنِي عَنْ ظُلْمَتِ تَكْوِينَاتِي

ہر حال میں کہ جو مجھے جہان کے اندھیروں سے برگشتہ کرے اور اپنے

وَأَمَحَقَّ فِعْلِي وَفِعْلَ الْفَاعِلِينَ فِي أَحَدِيَّةِ فِعْلِكَ

فعل کے اکیلا پن میں میرا فعل اور تمام فاعلین کا فعل نیست کرنے

وَتَوَلَّنِي بِجَمِيلٍ حَمِيدٍ اخْتِيَارِكَ لِي فِي جَمِيعِ

اور اپنے بزرگ اور نیکوئی والے اختیار سے جو تو میرے لئے رکھتا ہے

تَوَجُّهَاتِي وَأَفْنِ مِثْقَالَ رَادَتِي وَصَبْرِي وَ

میری کار سازی تمام توجہات سے کہ اور میرا ارادہ فانی کر اور مجھے صبر سے اور

سَدِّ دِينِي وَأَرْحَمَنِي وَأَصْحَابِي بِاللَّطْفِ وَ

میری خواہش بند کر اور مجھ پر رحم کر اور ساتھیوں میں میرا ساتھ لطف اور

الْعِنَايَةِ بِسَعِيَّتِي خَاصًّا مِنْكَ وَحَقِيقَتِي

عنایت سے اپنی خاص معیت سے اور مجھے لائق کر

بِقُرْبِكَ الَّذِي لَا وَخْشَةَ مَعَهُ يَا رَحْمَنُ

اس قرب سے جس کے ساتھ وحشت نہ ہو اے رحمن

يَا سَلَامٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اے سلامتی دینے والے اور سب تعریف اللہ پروردگار عالمین کو لائق ہے۔

# ورد روزِ شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

اَللّٰهُمَّ مَا اَحْلَمَكَ عَلٰی مَنْ عَصَاكَ وَمَا اَقْرَبَكَ

اے اللہ تو کتنا بردبار ہے اس پر جو تیری نافرمانی کرے اور تو کتنا قریب ہے

مِمَّنْ دَعَاكَ وَمَا اَعْطَفَكَ عَلٰی مَنْ سَاَلَكَ

اس سے جو تجھے پکارے اور تو کیسا مہربان ہے اس پر جو تجھ سے سوال کرے

وَمَا اَرَاكَ بِمَنْ اَمَلَكَ مِنْ ذٰلِذِی

اور تو کتنا رحم ہے اس کے ساتھ جو تجھ سے امید رکھے وہ کون ہے جس نے

سَاَلَكَ فَحَرَمْتَهُ اَوْ لَجَا اِلَيْكَ فَاهْمَلْتَهُ

تجھ سے مانگا تو نے اسے محروم رکھا اور تجھ سے التجا کی پس تو نے اسے بیکار چھوڑا

اَوْ تَقَرَّبَ مِنْكَ فَاَبْعَدْتَهُ اَوْ هَرَبَ

یا تجھ سے قریب ہوا تو نے اسے دور کر دیا یا تیری طرف دوڑ کر

اِلَيْكَ فَطَرَدْتَهُ لَكَ الْخَلْقَ وَالْاَمْرَ

آیا پس تو نے اسے دھتکارا مخلوق تیری ہے اور امر تیرا ہے

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعَذِّبُنَا وَتُوحِدُنَا فِی قُلُوْبِنَا

اے اللہ کیا تو ہمیں عذاب دینا پسند کرتا ہے حالانکہ تیری توحید ہمارے دلوں میں ہے



وَمَا إِخَالِكَ تَفْعَلُ وَلَكِنَّ فَعَلْتَ أَتَجْمَعُنَا

اور میں گمان نہیں کرتا کہ تو ایسا کرے اور اگر تو ایسا کرے گا تو کیا تو ہم کو ان لوگوں

مَعَ قَوْمٍ طَالَ مَا بَغَضْنَا هُمْ لَكَ

کے ساتھ اکٹھا کریگا جن کو ہم بڑی مدت تیری محبت کے سبب سے دشمن سمجھتے

فِي الْمَكْنُونِ مِنْ أَسْمَائِكَ

رہے پس اپنے ناموں کی پوشیدہ تاثیرات کے طفیل

وَمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ مِنْ بَهَائِكَ أَنْ

اور اپنی پوشیدہ چمک دک کے طفیل

تَغْفِرَ لَهُنَّ الْتَّفِيسِ الْهَلُوعِ وَلِهَذَا

بخش دے اس عریص نفس اور اس بے صبر

الْقَلْبِ الْجَزُوعِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ لِحَرِّ الشَّمْسِ

دل کو بخش دے جو دھوپ کی گرمی میں صبر نہیں کر سکتا

فَكَيْفَ يَصْبِرُ لِحَرِّ نَارِكَ يَا حَلِيمٌ

پس تیری آگ کی گرمی میں کیسے صبر کر سکے گا اے علم کرنے والے

يَا عَظِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا رَحِيمٌ

اے عظمت والے اے سخی اے مہربان

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ السُّلِّ

اے اللہ ہم تیرے ساتھ پناہ مانگتے ہیں ذلت سے

الَّذِي وَمِنَ الْخَوْفِ الْآمِنُكَ وَمِنَ

مگر تو تیرے لئے ہو اور خوف سے مگر تجھ سے ہو اور فقر و

الْفَقْرِ الْآلِ إِلَيْكَ هَاللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْوهَنَا

فاقہ سے پناہ مانگتے ہیں مگر جو تجھ سے ہو، اے اللہ جیسے بچا یا تو نے ہمارے چہروں کو

أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِكَ فَصْنُ آيِدِينَا أَنْ تَمْتَدَّ

غیر کے آگے سجدہ کرنے سے ایسے ہی بچا ہمارے ہاتھوں کو کہ نہ پھیلے سوال

بِالسُّؤَالِ لِغَيْرِكَ لِأَنَّ إِلَهًا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

کو تیرے غیر کے آگے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھے پاکی ہے

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلَمِيِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

ٹھیک میں ظالموں سے ہوں اور سب صفت و ثنا پروردگار

الْعَالَمِينَ ط

جہانوں کے لئے ہے۔

## ورد روزِ چهارشنبه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

إِلَهِي عَمَّ قَدْ مَكَ حَدِيثِي فَلَا أَنَا

اے اللہ تیری ہمیشگی نے میری پیدائش پر عام احسانات کئے پس میرا تو

وَأَشْرَقَ سُلْطَانٌ نُورَ وَجْهِكَ فَاصْنَاءَ

کچھ بھی نہیں اور تیری ذات کا نور مجھ پر چمکا پس میری

هَيْكَلٍ بِشَرِيَّتِي وَلَا سِوَاكَ فَمَا دَامَ

سیریا کی سیکل کو روشن کر دیا اور تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا پس میں

مِثِّي فَبَدَّوْا مَلِكًا وَمَا فَنِي عَنِّي

جب تک رہونگا تیری بقا کے ساتھ قائم رہونگا اور جب فنا ہونگا تو

فَبِرُؤْيِيَّتِي أَيَّامِي وَأَنْتَ الدَّائِمُ

تیرا دیدار مجھے نصیب ہوگا اور تو دائم ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِالْأَلْفِ إِذَا

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ سے سوال کرتا ہوں ساتھ الف (اللہ) کے جب

تَقَدَّمَ هُوَ بِالْهَاءِ إِذَا تَأَخَّرْتُ وَبِالْهَاءِ

مقدم کیا جاتا ہے اور طفیل ہار کے جب پیچھے آتی ہے اور ساتھ ہار کے

مِثِّي إِذَا انْقَلَبْتُ لِأَمَّا أَنْ تُفْنِيَنِي بِكَ

مجھ سے جب لام سے بدل جاتی ہے یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ مجھے محو کر دے

عَنِّي حَتَّى تَلْتَحِقَ الصِّفَاتُ بِالصِّفَةِ وَ

یہاں تک کہ صفت کے ساتھ صفت مل جائے اور

تَقَعُ الرَّابِطَةُ بِالذَّاتِ هَلَا إِلَهَ إِلَّا

ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے نہیں کوئی معبود

أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

تیرے سوا اے زندہ اے قائم اے بزرگی اور اکرام والے

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور ہمارے سردار محمد اور ان کی اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ط

اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ

اور سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے اور سب تعریف

لِلّٰهِ وَحْدًا ط

اسی واحد کو لائق ہیں۔

## ورد روزِ پنجشنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ط

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہمیشہ قائم ہے

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ط

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ قائم ہے اور

عَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اللَّهُمَّ ارِنِي

سب منہ ، زندہ قائم خدا کے آگے ذلیل ہونگے اس کا اللہ میں تجھ

أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بِمَا

سے مانگتا ہوں اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہ کچھ جو

سَأَلْتُكَ بِرَبِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

تیرے نبی نے تجھ سے مانگا جن کا نام پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ

علیہ وآلہ وسلم ہے، اے مہربان اے مہربان

يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مَبْدِي

اے مہربان اے عرش بزرگ والے ، اے اولاً پیدا کرنیوالے

يَا مُعِيدُ يَا فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ اسْأَلُكَ يَا نَوْرَ

اے دوبارہ لوٹانے والے ، اے جو چاہے کر نیوالے ، تیرے ذاتی نور کے

وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَ

طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نور نے ارکان عرش کو پُر کر دیا اور

بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ

تیری قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو تمام مخلوقات پر قادر و غالب

خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

ہے اور تیری رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر واسع و فراخ ہے،

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيثُ اغْنِنِي تِنِينَ بَارِ اللَّهُمَّ

نہیں کوئی معبود تیرے سوا اے فریادرس میری فریاد سن (تین بار) اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا لَطِيفُ قَبْلَ كُلِّ لَطِيفٍ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے ہار یک میں ہر ہار یک میں سے پہلے

وَيَا لَطِيفُ بَعْدَ كُلِّ لَطِيفٍ يَا لَطِيفُ تِنِينَ بَارِ

اور اے مہربان ہر مہربان کے بعد اے مہربان (تین بار)

لَطُفْتَ بِمَخْلُوقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَسْأَلُكَ

تو نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں لطف کیا اے اللہ میں سوال

يَا رَبِّ كَمَا لَطُفْتَ بِي فِي ظُلْمَتِ الْأَحْشَاءِ ط

کرتا ہوں کہ جیسے تو نے مجھ پر ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں لطف کیا

الطُّفُّ بِي فِي قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ وَفَرَجِ

یونہی مجھ پر اپنی قضاء و قدر میں مہربانی کر اور مجھ سے

عَنِّي الضِّيقِ وَلَا تُحْمِلْنِي مَا لَا أُطِيقُ

تنگی دور کر اور جس بوجھ کو میں نہیں اٹھا سکتا، مجھ پر نہ ڈال

بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ

بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ كَيْسٍ اس پر اور اس کی آل پر رحمت اور

إِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيِّدِنَا ابْنِ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ

سلام ہو اور بحرمت ابو بکر صدیق کے راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ط يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ

اللہ تعالیٰ اس سے اے مہربان اے مہربان

يَا لَطِيفُ الطُّفُّ بِي بِخَفِيٍّ خَفِيٍّ خَفِيٍّ لَطْفِكَ

اے مہربان مجھ پر مہربانی کر ساتھ باریک باریک و باریک لطف اپنے کے

الْخَفِيُّ الْخَفِيُّ الْخَفِيُّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ

جو نہایت مخفی در مخفی ہے تو نے فرمایا اور تیرا فرمانا

الْحَقُّ ط اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

حق ہے اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جسے چاہے

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

اور وہ قوت والا غالب ہے اور ہم کو اللہ کافی ہے اور اچھا

الْوَكِيلُ ط وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

کارساز ہے اور سب تعریفیں اللہ کو جو پروردگار جہانوں کا ہے۔

## ورد روز جمعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ قَدِيمِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل بزرگ قدیم

كِرِيْمٍ مَكْنُوْنٍ مَخْرُوْنٍ اَسْمَائِكَ وِ بِاَنْوَاخِ

عزت والے پوشیدہ ناموں تیرے کے اور طفیل قسموں

اَجْنَاسِ رُقُوْمٍ نَقُوْشِ اَنْوَارِكَ وِ بِعِزِّ اَعْرَازِ تَعَزُّزِ

جنسوں رقموں نقشوں نوروں تیرے کے اور طفیل عزت والے اعزاز بزرگ

عِزَّتِكَ وِ بِحَوْلِ طَوْلِ جَوْلِ شَدِيْدِ قُوَّتِكَ

عزت تیری کے اور طفیل طاقت غلبے حملے شدید قوت تیری کے

وِ بِقَدْرِ مِقْدَارِ اِقْتِدَارِ قُدْرَتِكَ وِ بِتَأْيِيْدِ

اور طفیل قدر اندازے اقتدار قدرت تیری کے اور طفیل تائید

تَحْمِيْدِ تَسْجِيْدِ تَعْظِيْمِ عَظْمَتِكَ وِ

تعریف بزرگی بیان کرنے تعظیم عظمت تیری کے اور

بِسْمُوْنِ نَسُوْعٍ عَلُوْرِ رَفْعَتِكَ وِ بِقِيُوْمِ دِيْئُوْمِ

طفیل اونچائی بڑھنے بندی رفعت تیری کے اور طفیل قائم رکھنے والی ہمیشگی

دَوَامِ مَسَدَّتِكَ وِ بِرِضْوَانِ خَفَرَانِ

دوام مدت تیری کے اور طفیل رضامندی بخشش

اَمَانِ مَغْفِرَتِكَ وِ بِرَفِيْعِ بَدِيْعِ مَنِيْعِ

امان مغفرت تیری کے اور طفیل بلند عجیب پخت

وِ سُلْطَانِيْكَ وِ سَطُوْتِكَ وِ بِرَهْبُوْتِ

حکومت اور غلبے تیرے کے اور طفیل وہبے



عَظْمُوتِ جَبْرُوتِ جَلَالِكَ وَبِصَلَاتِ

عظمت تکبر جلال تیرے کے اور طفیل رحمت

سُعَاتِ سِعَةِ بِسَاطِ رَحْمَتِكَ وَبِلَوَامِعِ

پاک فراخی فرش رحمت تیری کے اور طفیل چمکنے

بِوَارِقِ ضَوَائِعِ عَجِيحِ رَهِيحِ رَهِيحِ

والے روشن بجلیوں صاف بھڑک دار روشن

وَهِيحِ بَهِيحِ نُوْرٍ ذَا اِيْتِكَ وَبِبَهْرِ قَهْرِ

نور ذات تیری کے اور طفیل روشن غلبے

جَهْرِ مَيْمُونِ اِرْتِبَاطِ وَحَدَا اِيْتِكَ

ظاہر مبارک رابطے توحید تیری کے

وَيَهْدِي رَهْيَا رِيْتَا رِيْتَا اَمْوَاجِ بَحْرِكَ

اور طفیل برحق زوردار جوش زن موجوں تیرے دریا کے جو

السَّحِيْبِ بِمَلَكُوتِكَ وَبِاتِّسَاحِ اِنْفِيسَا

تیری باد شاہی کا محیط ہے اور طفیل فراخ فراخی

مِيَادِيْنِ بَرَازِيْخِ كُرْسِيِّكَ وَبِهَيْكَلِيَّاتِ

میدانوں حدود کرسی تیری کے اور طفیل پاک مقامات

عُلُوِّيَّاتِ رُوْحَانِيَّاتِ اَمْلَاكِ اَفْلَاكِ عَرْشِكَ

بلند روحانیات ملکوں افلاک عرش تیرے کے

وَيَا مَلَائِكَةَ الرُّوحَانِيِّينَ الْمُدِيرِينَ لِلْكَوَاكِبِ

اور طفیل فرشتوں روحانیوں کو اکب کی تدبیر کرنے والوں

الْمُدِيرَةَ وَيَا فَلَاحِكَ وَبِحَسِينِ ابْنِ

تیرے آسمانوں کے اور طفیل گریہ زاری

تَسْكِينِ قُلُوبِ الْمُرِيدِينَ بِقُرْبِكَ وَ

تسکین دلوں تیرے قرب کے خواہشمندوں کے اور

بِخَضَعَاتِ حَرَقَاتِ زَفَرَاتِ الْخَائِفِينَ

طفیل عاجزیوں سوزشوں مناجاتوں آہ و زاری تیری ہیبت سے

مِنْ سَطَوَاتِكَ وَبِأَمَالِ نَوَالِ اقْوَالِ

ڈرنے والوں کے اور طفیل بخشش کی امیدوں تیری

السَّجَّهْدِينَ فِي مَرْضَاتِكَ وَبِخَضَعِ

رضا مندی میں کوشش کرنے والوں کے اور طفیل عجز و نیاز

تَفْطِيعِ تَفْطِيعِ تَعْظِيمِ مَرَاتِ الصَّابِرِينَ عَلَى

بھاری تکلیف کی تنگی کی تعظیم تنگیوں صابر لوگوں کے

بَلَوَاتِكَ وَبِتَعَبِ تَمَجُّدِ تَجَلُّدِ الْعَابِدِينَ

تیری بلاؤں پر اور طفیل بندگی بزرگی بہادری عابد لوگوں کے

عَلَى طَاعَتِكَ يَا أَوَّلَهُ يَا آخِرَهُ يَا ظَاهِرَهُ

تیری طاعت پر اے اول اے آخر اے ظاہر

يَا بَاطِنُهُ يَا قَدِيمُهُ يَا مُقِيمُهُ يَا قَوِيمُهُ

اے باطن اے قدیم اے مقیم اے قائم رہنے والے

إِطْمِئِنَّ بِطَلِسْمِ لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

محکروں سے برکت طلسم بسم اللہ شریف

الرَّحِيمِ شَرَّ سَوِيدِ أَعْيُنِ قُلُوبِ أَعْدَائِنَا

شر سیاہی دلوں دشمنوں ہمارے

وَأَعْدَائِكَ وَدُقِّ أَعْنَاقِ رُؤْسِ الظُّلَمَةِ

اور دشمنوں اپنے گوز اور اپنے قبر و غلبہ کی تیز تلواروں سے

بِسَيُوفِ نَشَاتٍ قَهْرِكَ وَسَطْوَتِكَ وَاجْبِنَا

ظالموں کے سروں سے گردنیں کاٹ دے اور ہم کو اپنے حکم

بِحُجْبِكَ الْكَثِيفَةِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

پردوں میں طفیل اپنی طاقت و قوت

وَقُدْرَتِكَ عَنِ لَحْظَاتِ لِسَانِ لَمَعَاتِ

اور قدرت کے ان کی آنکھوں سے بد نظروں کے چمکاروں سے

أَبْصَارِهِمُ الضَّعِيفَةِ بِعِزَّتِكَ وَ

ڈھانپ لے طفیل اپنی عزت اور

قُدْرَتِكَ وَسَطْوَتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

قدرت اور غلبے کے اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ وَصَبَّ عَلَيْنَا مِنْ أُنَابِيْبٍ سَيَّزِيْبٍ

اے اللہ اور ہم پر توفیق کی فواروں کے نلکوں

التَّوْفِيْقِ فِي رَوْضَاتِ السَّعَادَاتِ اِنَاءَ لَيْلِكَ

سے نیک بختیوں کے باغوں میں رات دن

وَاطْرَافَ نَهَارِكَ وَاغْسِنَا فِي اَحْوَاضِ

پانی برسا اور ہم کو اپنی نکوئی و احسان کے جاری و سیراب

سَوَاقِي مَسَاقِي بِرَبِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَقِيْدَانَا

توضوں میں ہندا اور ہم کو گناہوں سے بچنے کی

بِقِيُوْدِ السَّلَامَةِ عَنِ الْوَقُوْعِ فِي مَعْصِيَتِكَ

قیدوں میں قید رکھ

يَا اَوَّلُهُ يَا اٰخِرُهُ يَا ظَاهِرُهُ يَا بَاطِنُهُ

اے اول یا آخر اے ظاہر اے باطن

يَا قَدِيْمُهُ يَا قَوِيْمُهُ يَا مُقِيْمُهُ

اے قدیم اے قائم اے مقیم

يَا مَوْلَانِيُّهُ يَا قَادِرُهُ يَا مَوْلَانِيُّهُ يَا غَافِرُهُ

اے میرے مولا اے قادر اے میرے مولا اے گناہ بخشنے والے

يَا لَطِيْفُهُ يَا خَبِيْرُهُ اَللّٰهُمَّ ذَهَلَتْ

اے لطف کرنے والے اے خبر رکھنے والے یا اللہ عقل جاتی رہی

الْعُقُولُ وَانْحَسَرَتِ الْاَبْصَارُ وَحَارَتِ الْاَوْهَامُ

اور آنکھیں تھک گئیں اور وہم حیران ہو گئے

وَصَاقَتِ الْاَفْهَامُ وَبَعْدَتِ الْخَوَاطِرُ وَ

اور فہم تنگ ہو گئے اور دل کی باتیں دور جا پڑیں اور

قَصُرَتِ الظُّنُونُ عَنْ اِدْرَاكِ كُنْهِ كَيْفِيَّةِ

ظن کم ہمت ہو گئے تیری ذات کی کنہ کیفیت معلوم

ذَاتِكَ وَمَا ظَهَرَ مِنْ بَوَادِي عَجَائِبِ اَنْوَاعِ

کرنے سے اور تیرے قسم قسم کے عجائبات کے

اصْنَافٍ قُدْرَتِكَ دُونَ الْبُلُوغِ اِلَى التَّلَاوُفِ

جنگلوں سے کچھ ظاہر نہ ہوا سوائے چمکنے چمکار

لِسَعَاتِ لِسَحَابٍ بَرُوقٍ شَرُوقِ اَسْمَائِكَ

روشنیوں چمک دمک ناموں تیرے کے

يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَوَّلَ هٗ يَا اٰخِرَ هٗ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اول اے آخر

يَا ظَاهِرَ هٗ يَا بَاطِنَ هٗ يَا قَدِيمَ هٗ يَا قَوِيْمَ هٗ

اے ظاہر اے باطن اے قدیم اے پختہ کار

يَا مُقِيمَ هٗ يَا نُوْرَ هٗ يَا هَادِيَ هٗ يَا بَدِيْعَ هٗ

اے مقیم اے نور اے ہادی اے پیدا کرنے والے

يَا بَاقِيَهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ هَلَّا إِلَهًا إِلَّا

اے باقی اے صاحب جلال و عظمت و انعام کے تیرے سوا کوئی معبود

أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِثُّ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

نہیں ہم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس

أَعْتَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ إِحْسَنًا

ہماری فریاد سن، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی رحمت کے طفیل ہم پر رحمت کر

اللَّهُمَّ فَحَرِّكْ الْحَرَكَاتِ وَمَبْدِئِ نَهَائَاتِ

اے اللہ تحریک دینے والے تمام حرکات کے اور تمام مقاصد کی انتہا کو شروع

الْغَايَاتِ وَفَخْرِجْ بَيْنَا بِيَهُ قَضَابَانَ قَضَابَاتِ

کرنیوالے اور اے زمین سے چٹمے نکلنے والے بوٹیوں کی شاخیں اگلنے

النَّبَاتِ وَمُشَقِّقِ صِرِّجِ جَلَامِيدِ الصُّخُورِ

والے اور اے ٹھوس اور سخت پتھروں اور محکم پہاڑوں کے بھاڑنیوالے

الرَّائِسِيَّاتِ وَالْمَنْعِعِ مِنْهَا مَاءً مَعِينًا

اور ان میں مخلوقات کیلئے میٹھے پانی کے چٹمے نکلنے والے

لِلْمَخْلُوقَاتِ وَالسُّحِيِّ بِهٖ سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ

اور اس پانی سے تمام جانداروں

وَالنَّبَاتَاتِ وَالْعَالِمِ بِمَا اخْتَلَجَ فِي صُدُورِهِمْ

اور بوٹیوں کو زندہ کرنے والے اور اے لوگوں کے سینوں کے

مِنْ أَسْرَارِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَفَكَرْمِ مَرْمِزِ

بھیدوں اور ٹکروں کو جاننے والے اور پارکے رمز و اشارے

نُطْقِ إِشَارَاتِ خَفِيَّاتِ لُغَاتِ الْمَلِ السَّارِحَاتِ

زمین پر چلنے والی چیونٹیوں کی لغتوں اور بولیوں کو سمجھنے والے

يَا مَنْ سَبَّحَتْ وَقَدَّسَتْ وَعَظَّمَتْ وَكَبَّرَتْ

اے پاک ذات تیری تسبیحیں بیان کہیں اور تحفے پاکی سے یاد کیا اور تحفے عظیم سمجھا اور تیری بڑائی

وَمَجَّدَتْ لِجَلَالِ جَمَالِ كَمَالِ أَقْدَامِ اجْتِوَالِ

اور بزرگی بیان کی ساتھ بزرگی خوبصورتی کمال پیشرو اقوال

أَعْظَامِ عِزَّةٍ وَخَبْرٍ وَتَهْمَلَاتِكَ سَبْعِ

بڑے بڑے کے جو تیری عزت اور جبروت کے لائق ہیں سات آسمانوں کے

سَمَوَاتِكَ اجْعَلْنَا فِي هَذِهِ الْعَامِ وَفِي هَذَا

فرشتوں نے، کروے ہم کو اس سال اور اس

الشَّهْرِ وَفِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ

مہینے اور اس جمعہ اور اس دن

وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَارَكِ

اور اس ساعت اور اس وقت مبارک میں

مَنْ دَعَاكَ فَاجِبْتَهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ

ان لوگوں سے جن کی تو دعا قبول کرتا ہے اور جو سوال کریں عطا کرتا ہے

وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ فَرِحِمَّتَهُ وَإِلَى دَارِكَ دَارِ السَّلَامِ

اور ان کی عاجزی پر رحم کرتا ہے اور اپنی سلامتی کے گھر میں

أَدْنِيَّتَهُ بِفَضْلِكَ يَا جَوَادُهُ يَا جَوَادُهُ يَا جَوَادُهُ

ان کو پہنچاتا ہے اپنے فضل سے اے سخی اے سخی اے سخی

وَجَدَ عَلَيْنَا وَعَامِلِنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ

ہم پر سخاوت کر اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جس کے تو لائق ہے اور

لَا تُقَابِلِنَا بِمَا نَحْنُ أَهْلُهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُهُ

اس بات میں ہم پر گرفت نہ کر جس کے ہم لائق ہیں تو ہی

التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ طَيِّبًا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ

پر بہیزگاری اور بخشش کے لائق ہے اے تمام رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحیم

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا أَوَّلُهُ يَا آخِرُهُ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اول اے آخر

يَا ظَاهِرُهُ يَا بَاطِنُهُ يَا قَدِيمُهُ يَا قَوِيمُهُ

اے ظاہر اے باطن اے قدیم اے قائم

يَا مُقِيمُهُ يَا نُورُهُ يَا هَادِيَّهُ يَا بَدِيعَهُ

اے مقیم اے نور اے ہادی اے بدیع

يَا بَاقِيَّهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اے باقی اے صاحب جلال اور عظمت کے تیرے سوا کوئی معبود



أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِثُّ بِأَعْيَانِ الْمُسْتَغِيثِينَ

نہیں ہم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریادوں کی فریاد سننے والے

أَعْتَنَاهُ لِأَنَّ إِلَهَ الْآنُ أَنْتَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا

ہماری فریاد سن، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری رحمت کے ساتھ اے بڑھ کر

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ

رحمت کرنے والے تمام رحمت کرنے والوں سے ہم سوال کرتے ہیں اے اللہ یہ کہ

تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

رحمت بھیجے تو ہمارے سردار محمد پر اور اس کی آل اور اصحاب پر

وَتُسَلِّمَ وَأَنْ تَقْضِيَ حَوَائِجَنَا يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

اور سلام بھیجے تو، اور یہ کہ ہماری حاجتیں پوری کر اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اے اللہ اور سب تعریفیں اللہ جہانوں کے پروردگار کو لائق ہیں۔

## ورد روز شنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللَّهُمَّ يَا مَنْ نِعْمَتُهُ لَا تُحْصَى وَأَمْرُهُ

اے اللہ اے وہ ذات کہ تیری نعمتیں کوئی گن نہیں سکتا اور تیرے امر

لَا يَعْصِي وَنُورَهُ لَا يَطْفِي وَلُطْفُهُ لَا يَخْفِي

کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اس کا نور کبھی نہیں سکتا اور تیرا لطف چھپ نہیں رہ سکتا

يَا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ وَأَاحِيَ الْمِيتَ لِعِيسَىٰ

اے موسیٰ کے لئے دریا میں راستہ بنا نوالے اور حضرت عیسیٰ کے لئے مردے زندہ کرنے

وَجَعَلَ النَّارَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ صَلِّ

والے اور حضرت ابراہیم کے لئے آگ کو سرد اور سلامت کر نوالے رحمت نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کر ہمارے سردار محمد پر اور اس کی آل پر

وَأَجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا

اور کر ہمارے لئے اپنے امر کو خوشی اور خلاصی کا باعث بنا۔

اللَّهُمَّ بِنُورِ بَيْتِكَ عَرْشِكَ

یا اللہ طفیل چمکار نور پردوں عرش تیرے کے میں

مِنْ أَعْدَائِي إِحْتَجَبْتُ وَبِسُطُوَةِ الْجِبْرُوتِ

اپنے دشمنوں سے پردہ مانگتا ہوں اور طفیل غلے

مِمَّنْ يَكِيدُنِي تَحَصَّنْتُ وَمَجُولِ

جلا لیت کے جو مجھ سے فریب کرے اس سے قلعہ گیر ہوتا ہوں اور ساتھ

طُولِ جَوْلِ شَدِيدِ قُوَّتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

برکت طاقت غلے حملے شدید قوت تیرے کی کو ہر شیطان سے

تَحَصَّنْتُ وَبَدَيْمُومٍ قِيَوْمٍ دَامَ اَبَدِيَّتِكَ

قلعہ گیر ہوتا ہوں اور ساتھ برکت و ہمیشگی قائم رہنے والے دوام ابدیت تیری کے

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ اسْتَعَدَّتْ وَيَسْكُونُ

ہر ایک شیطان سے، میں نے پناہ مانگی اور ساتھ برکت

الْبَيْتِ مِنْ سِرِّ سِرِّكَ مِنْ كُلِّ هَامَةٍ

پوشیدہ در پوشیدہ بھید تیرے کے میں ہر ایک شیطان سے

تَخَلَّصْتُ وَتَحَصَّنْتُ يَا حَامِلَ الْعَرْشِ

غلام اور قلعہ گیر ہوا ہوں اے عرش کے اٹھانے والے

عَنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ يَا حَاطِسَ لَوْحِشِ يَاسِدِ

حاملان عرش سے اے بند کرنے والے وحشت کے اے شدید

الْبَطْشِ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ اَنْتَ حَبْسٌ

محلے والے تجھ پر میں نے توکل کیا اور تیری طرف رجوع لایا، تجھ سے

عَنِّي مَنْ ظَلَمَنِي وَاغْلِبْ عَلَيَّ مَنْ غَلَبَنِي كَيْتَبَ

ظالموں کو بند کر اور جو مجھ پر غالب ہے اس پر تو غلبہ کر اللہ نے

اللَّهُ لَا غَلِبَ لَنَا وَرُسُلِي طِائِفَاتُ اللَّهِ قَوِيٌّ

لکھ دیا اربابہ میں ضرور غالب ہونگا اور میرے رسول بھی، تحقیق اللہ قوت والا

عَزِيْزُهُ اللَّهُ اَكْبَرُهُ اللَّهُ اَكْبَرُهُ اللَّهُ

غالب ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ

اَكْبَرُهُ وَاَعَزُّ مِنْ خَلْقِ جَمِيعًا ۙ اللهُ

بڑا ہے اور اپنی تمام خلقت سے بڑی عزت والا ہے اللہ

اَعَزُّ مِمَّنْ اَخَافُ وَاَحْذَرُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ

بڑا غالب ہے اس سے جس سے میں خوف کرتا، ڈرتا ہوں پناہ مانگتا ہوں اللہ

الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مَمْسِكُ السَّمٰوٰتِ

کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے سات آسمانوں کو

السَّبِيحِ اِنْ تَقَعَّ عَلٰى الْاَرْضِ لَ يَأْذِنُ

زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر اس کے اذن سے

مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَّجَنُوْدِهِ وَاَتَّبَعَهُ

شر بندے تیرے فلان سے اور اس کے لشکروں اور تابعداروں

وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ ۙ اللهُمَّ

اور فرمانبرداروں جنوں اور آدمیوں سے، اے اللہ

كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَمِيعًا

تو میرے پڑوس میں ہو جا ان تمام کے شر سے۔

جَلَّ شَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ

تیری صفت بزرگ ہے اور تیرا پڑوس عزت والا ہے اور تیرا نام برکت

اِسْمُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ ۙ

والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔

وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ

اور تو ہر ایک چیز پر قادر ہے اور سب تعریف

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

طاپوہ درکار جہانوں کو ہے۔

اللہ

# درود متعاش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ النَّبِيِّينَ بِحَبِيبِهِ

تمام تعریفیں اس خدا کو جس نے زینت دی نبیوں کو ساتھ اپنے حبیب

الْمُصْطَفَى وَمَنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِنَبِيِّهِ

چمیدہ کے اور احسان کیا اور مومنوں کے ساتھ نبی کریم اپنے

الْمُجْتَبَى الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِهِ

برگزیدہ کے، درود اور سلام اوپر رسول کریم کے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى هُ الْمَسِيرُ بِهِ مِنْ

جن کا اسم محمد ہے بہتر خلق کے وہ نبی کہ سیر کرائی گئی ان کو

فَوْقِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ النَّبِيِّ هُ الْحَمْدُ لِلَّهِ

عرش مجید سے ساتھ زمین کے نیچے تک، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں

عَلَى مَا مَضَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ وَ

اوپر اس چیز کے جو گزری اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اوپر کتنی باقی چیزوں کے اور

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ

درود و سلام اور پر رسول اللہ کے جو ہمارے سردار محمد ہیں بہتر خلق

الْوَرَى مَدَحَتِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

کے، تعریف کی میں نے تیرے لئے اے میرے سردار اے رسول اللہ درود

اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنْتَ خَيْرُ مَا خَلَقَ اللَّهُ

مجھے اللہ اور پر نبی امی کے، آپ اللہ کے برگزیدہ

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد کرنے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

اور سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول،

رَسُولٌ سَيِّدُ الْكَوْنِينَ فَتَاحٌ فَاتِحٌ اللَّهُ

رسول سردار دو جہان کے مشکلات کھولنے والے باری

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

کرنیوالے امر اللہ کے، فریاد پہنچانے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

درود اور سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے

اللَّهُ هَذَا النَّبِيُّ الْمُسْتَفَاتُ فِي رَسُولِ سِرَاجِ

رسول، ایسے نبی کہ برگزیدہ ہیں رسول چراغ

الْعَلَمِينَ مُحَمَّدٍ مُطِيبَهُ الْمُسْتَفَاتُ

عالم کے تعریف کئے گئے پاکیزہ اللہ کے فریاد پہنچائے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، صلوة و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّيِّدُ الْمَعْلَى

اے میرے سردار اے رسول اللہ سردار بلند مرتبہ والے

رَسُولِ نَبِيِّ الْخَافِقِينَ قَاسِمِ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ

رسول نبی مشرق و مغرب والوں کے، بانٹنے والے بہتر خلقت اللہ کے

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ، صلوة و

وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَى

سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول بہتر

مِنْ عِبَادِ اللَّهِ رَسُولِ صَاحِبِ الدَّارِينَ خَادِمِ

بندوں سے اللہ کے ، رسول صاحب دو جہان کے ، خادم پاک بندوں

طِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

سے اللہ کے ، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ،

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

صلوة و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے رسول



اللَّهُهُ النَّبِيُّ الْمُرْزُوقِي رَسُولُ تَاجِ الْحَرَمَيْنِ

اللہ کے، نبی پاک کئے گئے رسول تاج حرمین (مکہ و مدینہ) کے

نَاهِ طَاهِرًا لِلَّهِ هُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

روکنے والے، اللہ کے پاک، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

اللہ تعالیٰ کے درود و سلام اوپر آپ کے اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ هُدَانَا رَسُولُ جَدِّ الطَّيِّبِينَ

اے اللہ کے رسول، ہدایت دی ہم کو رسول نے جو دو پاکوں کے نانا

الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ دَاعِي مَطَهَّرَ اللَّهُ هُ

یعنی حسن اور حسین کے ہیں، عبادت کی طرف بلائے والے، اللہ کے پاکیزہ

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ الصَّلَاةَ وَ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، صلوة و

السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ

سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے رسول اللہ کے،

نَبِيِّ مَخْتَارٍ مَرْضِيٍّ إِمَامِ رَسُولِ مَقْتَدِي

نبی اختیارولے برگزیدہ امام رسول اقتدار کئے گئے

الْأُمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ هَادِي سُبْحَانَ اللَّهِ هُ

اماموں کے جو ہدایت یافتہ ہیں، ہادی ظاہر کرنے والے اللہ کے،

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد چاہے چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَدَانَا رَسُولٌ مَهْدِيٌّ مِنْ

اے رسول اللہ ، ہدایت دی ہیں رسول ضلالت سے

الضَّلَالَةِ مَهْتَرٍ مُطِيعٌ لِلَّهِ الْمُسْتَفَاتُ

ہدایت دئے گئے، ہدایت پانچواں اللہ کی اطاعت والے، فریاد چاہے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُدَيْنَا

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول، محبوب ہمارے

رَسُولٌ مَهْدِيٌّ الْأُمَّةِ وَرَسُولٌ صَفِيٌّ حُجَّةٌ

رسول امت کے ہدایت دینے والے اور رسول برگزیدہ برہان

اللَّهُ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَمَجِئْنَا

اے اللہ کے رسول ، سردار ہمارے محمدؐ جب ہمارے

أَحْمَدُ رَسُولٌ كَرِيمٌ رَضِيَ خَلِيفَةٌ

احمد رسول کریم راضی کئے گئے خلیفہ

اللَّهُ ط الْمَسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ ط رَسُولِنَا رَسُولٌ عَلِيٌّ

اے اللہ کے رسول ، رسول ہمارے رسول ہمیشہ

الدَّوَامِ نَبِيٌّ ظُهُ قَائِمٌ حَامِدٌ لِلَّهِ

کے نبی ظہ قائم عبادت میں اللہ کی تعریف کرنے والے

الْمَسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ،

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ ط أَمِيرِنَا رَسُولٌ نَبِيٌّ مُحَمَّدٌ

اے اللہ کے رسول ، امیر ہمارے رسول نبی محمدؐ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ کے ، رحمت کرے اللہ تعالیٰ آپ پر اور سلام

تَأْخِرُ كَلِيمًا لِلَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةٍ

یاری دینے والے کلیم اللہ کے ، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے ، صلوة اور سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ مَعِينَا رَسُولٌ

اے سردار میرے اے اللہ کے رسول مددگار ہمارے رسول

وَالدَّرُّ النَّبِيُّ الْيَاسِينَ إِمَامًا مِمَّنْ أَمِنَ اللَّهُ

اور موتی خالص نبی سردار امام اللہ کے کا امتداد

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد چاہے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

صلوة و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ مُصَدِّقُنَا رَسُولٌ وَحَبِيبُنَا

اے اللہ کے رسول ، سچا کر نبولے ہم کو رسول اور محبوب ہمارے

نَبِيٌّ مُزْمَلٌ بَيَانُ رَسُولِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

نبی کلیم پوشش بیان کرنے والے اللہ کے رسول ، فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے مسلوٰۃ و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِشَاهِدِنَا رَسُولَ

اے میرے سردار اے اللہ کے رسول شاہد ہمارے رسول

وَنَبِيِّ مَنَّانٍ تَرْفَعُ قُرْآنَ نُورِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتِ

اور نبی بکس پوش نزدیک کرے، نور اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے مسلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مُذَكِّرُنَا

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول یاد دلانے والے ہم کو

رَسُولٌ مَعْطَرُ الرُّوحِ بِأَرْجُوَادِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتِ

رسول خوشبودار روح والے نیکی کر نیو، سعی اللہ کے، فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، مسلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُلْطَانُ

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول، بادشاہ

الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ الْفُرْقَانِ عَلِيٌّ مَكِّيٌّ

نبیوں کے رسول صاحب فرقان شریف کے، مکہ والے

شَكَوْرًا لِلّٰهِ هُ الْمَسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ

شکر کرنا اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

تعالیٰ کے، صلوة و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللّٰهِ هُ اِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ رَسُوْلٌ صَاحِبٌ

اے اللہ کے رسول، امام پرہیزگاروں کے رسول صاحب حوض

الْكُوْتَيْمِدِي مِّنْ مِّنْ اِيْرَ اللّٰهِ هُ الْمَسْتَعَاثُ

کوثر کے، مدینہ پاک کے رہنے والے، نور اللہ کے، فریاد چاہے گئے

اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، صلوة و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُ سِرَاجٌ

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول، چراغ

الْاَوْلِيَاءِ رَسُوْلٌ صَاحِبُ الْمِيْزَانِ اَبْطَحِي

ولیتوں کے، رسول صاحب میزان کے، بطحا والے

قَرِيْبٌ لِلّٰهِ هُ الْمَسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ

نزدیک اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ کے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْهَانَ الْأَصْفِيَاءِ رَسُولُ

اے اللہ کے رسول ، برہان برگزیدوں کے رسول

سَيِّدِ الْقَوْمِ عَرَبِيٍّ يَتِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

سردار قوم کے عربی یتیم اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ، درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ شَفِيعَنَا

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول ہماری شفاعت کرنے

رَسُولِ مَجْرَاهِ الْمَهْدِيِّ قُرَيْشِيِّ شَهِيدِ

ولے ، جگہ جاری ہونے شفاعت کے ہدایت یافتہ قریشی شاہد

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے ، فریاد چاہے گئے ، طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَامَ الْمُؤْمِنِينَ وَرِزِيَّةَ

اے اللہ کے رسول ، امام و پیشوا مومنوں کے اور رزیت

الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ خَادِمِ الْفُقَرَاءِ حِجَابِيٍّ

نبیوں کے رسول خدمت کرنے والے فقیروں کے ، حجابی

نَذِيرًا لِلَّذِينَ اسْتَفْتَاكَ إِلَىٰ حَضْرَةِ اللَّهِ

ڈرنے والے اللہ کی طرف سے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ کے

تَعَالَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ خَتَمُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولٌ مَّاحٍ

اے اللہ کے رسول، آخر آنیوالے نبیوں کے رسول مٹائیوائے کفر کے

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْتَفْتَا

سردار ہمارے محمد بیٹے عبد اللہ کے، فریاد چاہے گئے

إِلَىٰ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ صَادِقُنَا

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول، سچے ہمارے

رَسُولٌ مَّرْسَلٌ مَّتَوَسِّطٌ رَحِيمٌ لِلَّهِ

رسول بھیجے گئے درمیان کرنیوالے شرع کے، رحیم اللہ کے

الْمُسْتَفْتَا إِلَىٰ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے رسول



اللَّهُ سَيِّدَنَا رَسُولٌ مُسْتَفِيئٌ مُتَّقِدٌ

اللہ کے، سردار ہمارے رسول فریاد چاہنے والے میاں رو

حَلِيمٌ اللَّهُ السُّتَغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

برو ہار بندے اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ کے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ اَغْنِنَا يَا رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ

اے اللہ کے رسول، فریاد درسی فرماؤ ہماری اے رسول جنوں اور انسانوں کے

أَنْتَ حَقٌّ مِّنْ حَيْبِ اللَّهِ السُّتَغَاتُ إِلَى

آپ برحق ہیں رجوع کرنیوالے طرف اللہ کی، فریاد چاہے گئے طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے، درود و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاَعْظَمْنَا رَسُولٌ

اے میرے سردار اے اللہ کے رسول، ہمیں نصیحت کرنیوالے رسول

وَرَسُولٌ الْمَجْتَبَىٰ أَوَّلُ حَيْبِ اللَّهِ طَالِمُسْتَفَا

اور اللہ کے برگزیدہ رسول پہلے اللہ کے حبیب، فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْرَمَتَا

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول بزرگ ہمارے

رَسُولُ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ الْاٰخِرِ عَزِيْزِ اللّٰهِ

رسول صاحب شریعت، آخر میں آئیوں والے، غلبہ دے گئے

الْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى الصَّلٰوةُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ اٰهْلُ

سلام آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول، صاحب

التَّقْوٰى رَسُوْلُ صَاحِبِ الطَّرِيْقَةِ شِفَاؤُ

پرہیزگاری کے رسول صاحب طریقت کے، شفا دینے والے

فَصِيْحُ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ

خوش گو اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالٰى الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

تعالیٰ کے، درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِكَ اَنْتَ نَبِيُّ رَسُوْلٍ

اے اللہ کے رسول، ایمان لائے ہم آپ پر آپ ہمارے نبی ہیں رسول

صَاحِبِ الْحَقِيْقَةِ مُضَرِّيْ لِبَشِيْرِ اللّٰهِ

صاحب حقیقت کے، مضر والے، خوشخبری دینے والے اللہ کے،

الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَامُ

سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول پیشوا

الْأُمِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَاحِبُ السُّعْرَةِ بَرَهَانَ

امتوں کے محمد صاحب معرفت کے دلیل

رَحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

رحمت اللہ کے ، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

تعالیٰ کے درود اور سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبِيرِنَا رَسُولُ صَاحِبِ

اے اللہ کے رسول ، بزرگ ہمارے رسول صاحب

الْجَنَّةِ ظَاهِرُ كَرِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَفَاتُ

جنت کے غالب سخی اللہ کے ، فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ، درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سَنَدُ

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول ، تکیہ گاہ

الْعَاصِبِينَ رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ فَارِقُ

گنہگاروں کے رسول صاحب جنت کے، دور کر نیوالے

جَهَنَّمَ سُلْطَانَ تَهَامِيٍّ مُؤْمِنٌ اللَّهُ ط الْمَسْتَغَاثُ

دوزخ کے، بادشاہ مکہ معظمہ والے ایمان لائے اللہ پر، فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ط فِقِيهَتَا

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول، دانا ہمارے

رَسُولُ صَاحِبِ الصِّرَاطِ ط مَبْلَغُ عَاقِبِ

رسول صاحب صراط کے، پہنچا نیوالے پیچھے آنے والے

اللَّهُ ط الْمَسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

نبی اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے رسول

اللَّهُ ط أَمْثَالِكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا رَسُولُ صَاحِبِ

اللہ کے، ایمان لائے ہم آپ پر، آپ ہمارے والی ہیں رسول صاحب

الشَّفَاعَةِ ط بَاطِنُ خَلِيلِ اللَّهِ ط الْمَسْتَغَاثُ

شفاعت کے، باطن دوست اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے، درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ شَهِيدٌ

آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول گواہی دینے والے

عَوَامِنَا رَسُولُ صَاحِبِ التَّاجِ مُحَلِّلٌ

ہم سب کے رسول صاحب تاج کے، آزاد کرنے والے

يَا ذِينَ اللَّهِ السُّتَغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

اللہ کے اذن سے، فریاد چاہنے والے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

تعالیٰ کے، درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ هُ وَمِنَ النَّارِ مُخْلِصُنَا رَسُولٌ

اس اللہ کے رسول، دوزخ کی آگ سے ہم کو نجات دینے والے رسول

صَاحِبِ الْبَحْرَابِ حَاشِرُ نَبِيِّ اللَّهِ هُ

صاحب بحراب کے، جمع کرنے والے نبی اللہ کے،

السُّتَغَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد چاہنے والے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے رسول

اللَّهُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

اللہ کے، افضل نبیوں اور صدیقوں سے

مَحْبُوبِنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْمِنْبَرِ خَطِيبِ

دوست ہمارے رسول صاحب منبر کے خطاب کرنے والے

رَحْمَةً اللَّهُ طَالِمَسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

رحمت اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تھانے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

کے درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَبِشِّرِنَا رَسُولَ صَاحِبِ الْبَيْتِ

اے اللہ کے رسول، ہم کو خوشخبری دینے والے رسول صاحب بیت اللہ کے

عَامِرُ كَعْبَةَ اللَّهِ طَالِمَسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

تعمیر کرنے والے کعبۃ اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي

تعالیٰ کے درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْبَرِنَا رَسُولَ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ

اے اللہ کے رسول، بزرگ ہمارے رسول صاحب معراج کے

عَالِمُ غَنِيِّ اللَّهِ طَالِمَسْتَفَاتُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

عالم غنی اللہ کے، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا

تعالیٰ کے درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے

رَسُولَ اللَّهِ هُنَّ آخِرُ الزَّمَانِ رَسُولُ صَاحِبِ

اللہ کے رسول ، نبی آخر زمانے کے رسول صاحب

الْإِجْتِهَادِ مُنْتَقِمٌ مِّمَّنْ رَأَى اللَّهَ الْمُسْتَفَاتِ

اجتہاد کے بدلہ لینے والے بزرگ اللہ کے فریاد چاہے گئے

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الدِّينِ صَادِقُنَا

اے میرے سردار اے اللہ کے رسول ، دین میں راست گو ہمارے

رَسُولُ صَاحِبِ الْقِيَامَةِ نَاطِقٌ شَفِيعٌ لِلَّهِ

رسول صاحب قیامت کے بولنے والے شفاعت کرنے والے اللہ کے

الْمُسْتَفَاتِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ، درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مُشْفَعٌ

و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول شفاعت قبول

الْأُمَّةِ مَعِينًا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ صَاحِبِ

سکے گئے امت کے مدد کرنے والے ہماری شفاعت سے ، رسول صاحب

النَّبِيُّ مُحَرَّمٌ نَبِيِّ اللَّهِ الْمَسْتَغَاثُ إِلَى

نبوت کے عزت والے نبی اللہ کے ، فریاد چاہے گئے طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَبِيَّ الرَّحْمَةِ سَابِقَنَا

اے میرے سردار اے اللہ کے رسول ، اور نبی رحمت کے اول ہمانے

رَسُولُ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ حَرِيصٌ رَعُوفٌ

رسول صاحب دو جہانوں کے ، رغبت کرنے والے مہربان بندے

اللَّهُ الْمَسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے ، فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے رسول

اللَّهُ هُوَ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَايِبُ نَبِيِّنَا رَسُولَ

اللہ کے ، سردار جن اور انسانوں کے برائی سے روکنے والے نبی ہمارے رسول

صَاحِبِ النِّعْمَةِ هَاشِمِيُّ كَرَامَةِ اللَّهِ

صاحب نعمت کے اولاد ہاشم کے ، بزرگ اللہ کے ،

الْمَسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَ

فریاد چاہے گئے طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے ، درود و



السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مُقَرَّبًا

سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول ہم کو نزدیک کرنا

رَسُولٌ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ

رسول طرف رحمت اللہ تعالیٰ کے لاکھ

صَلَاةٍ وَسَّلَامٍ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَحَبِيبِهِ

درود و سلام اور اس کے برگزیدہ رسول کے اور اس کے برگزیدہ

السَّجْدِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

محبوب کے درود ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا اور اس کی آل پر اور سلام

اللَّهُمَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ الثَّقَفِيَّ وَسَيِّدَنَا

اے اللہ رحمت کر اور سردار ہمارے ابو بکر پر جو ثقی ہے اور سردار ہمارے

عُمَرَ الثَّقَفِيَّ وَسَيِّدَنَا عُمَرَ الزُّرَيْكِيَّ وَسَيِّدَنَا عَلِيَّ

عمر سقر کے پر اور سردار ہمارے پاک عثمان پر اور سردار ہمارے صاحبِ وفا

الْوَفِيِّ أَسَدَ اللَّهِ الْمُرْتَضَى وَسَيِّدَتَنَا فَاطِمَةَ

علی پر جو اللہ کے برگزیدہ شیر ہیں اور سیدہ فاطمہ زہرا پر

الزَّهْرَاءَ وَسَيِّدَتَنَا خَدِجَةَ الْكُبْرَى وَسَيِّدَتَنَا

اور سیدہ خدیجہ کبریٰ پر اور سیدہ

عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ الْعَلِيَّا وَسَيِّدَنَا الْحَسَنَ

عائشہ صدیقہ بلند رتیبہ پر اور سردار ہمارے حسن پر

الرَّضَىٰ وَسَيِّدَنَا الْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ الْمُجْتَبَىٰ وَشَهِدَاءَ

صاحبِ رضایہ اور امام حسین پر جو شہید بزرگ ہیں اور شہداء

كَرِيْلًا وَسَيِّدَنَا حَمْرَةَ وَسَيِّدَنَا عَبَّاسًا وَ

کر بلا پر اور سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس اور

السَّعْدَ وَالسَّعِيدَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ

سعد اور سعید اور طلحہ اور زبیر اور

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجِرَّاحِ

عبدالرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح پر

وَالْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرِينَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَ

دس صحابہ جو بشارت دئے گئے اور تمام صحابہ پر اور

التَّابِعِينَ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ رِضْوَانُ

تابعین اور خلفائے راشدین پر رضا ہو

اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ کی ان سب پر اے اللہ

اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا

بخش مجھے اور میرے ماں باپ کو اور رحم کر ان دونوں جیسے کہ

رَبِّيَانِي صَغِيرًا وَاعْفِرْ اللَّهُمَّ لِي جَمِيعًا

پرورش کی مانندوں نے میری بچپن میں اور بخش اے اللہ تمام

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

مومنوں اور مومنات اور مسلمانوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

اور مسلمات کو جو ان میں سے زندہ اور وفات پا گئے ہیں

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اپنی رحمت سے اے بہت مہربان مہربانوں سے

# صلوة کبریٰ ماحم

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عِدَادًا وَاَنْهٰی

اے اللہ نازل کر تو بہترین درودوں اپنے کو گنتی میں اور زیادہ

بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَاَزْكٰی تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ

برکتوں اپنی کو ہمیشہ اور پاکیزہ تر سلاموں اپنے کو ازیں فضل کے اور

مَدَدًا عَلٰی اَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَّ

مدد کے اوپر بزرگ ترین اصلوں انسانیت کے اور

مَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ

کان باریکیوں ایمانیت کے اور پہاڑ بزرگ روشنیوں

الْاِحْسَانِيَّةِ وَمَهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَّ

احسانیت کے اور جگہ اترنے بھیدوں رحمانیت کے اور

وَاِسْطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّينَ وَمَقْدَمَةِ جَيْشِ

پہنچنے والے گره پیغمبروں کے اور پیش رو لشکر

الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ

پیغمبروں کے اور افضل سب مخلوقات کے

حَامِلِ لُؤَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَالِكِ أِزْمَةِ الشَّرَفِ

اٹھانے والے جھنڈے بزرگی بڑی کے اور مالک مہاروں بزرگی

الْأَسْنَى شَاهِدِ الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ الْأَنْوَارِ

روشن تر کے واقف بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے نوروں

السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَوْجِمَانِ لِسَانِ الْقِدْمِ وَ

اگلے پہلے کے اور بیان کرنے والے زبان ہمیشگی کے اور

مَنْعَمِ الْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمُظْهِرِ

چشمہ علم اور بربادری اور حکمتوں کے اور جائے ظہور

سِرِّ الْجُودِ الْجَزِيِّ وَالْكَلْبِيِّ وَاللِّسَانِ عَيْنِ

بھید بخشش مقوڑی اور بہت کے اور پتلی آنکھ

الْوَجُودِ الْعُلُوبِيِّ وَالسِّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ

ہستی وجود بلند اور پست کے اور جان جسم

الْكُونَيْنِ وَعَيْنِ حَيَوَةِ الدَّارَيْنِ

دونوں جہان کے اور اصل زندگی دنیا اور آخرت کے

الْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَى رُتَبِ الْعِبُودِيَّةِ الْمُسْتَحَقِّ

خوگیر ساتھ برترین رتبہ بندگی کرنے کے ثابت آراستہ

بِأَسْرَارِ الرَّبُّوبِيَّةِ صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْإِصْطِفَاءِ

ساتھ بھیدوں ربوبیت کے صاحب مقامات برگزیدگی

وَالْكَرَامَاتِ الْإِرْتِضَائِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَ

اور کرامات پسندیدہ کے سردار بزرگوں کے اولاد

جَامِعِ أَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ

جمع کرنے والے اوصاف دوست بڑے کے اور دوست

الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَ

بزرگ کے خاص کئے گئے ساتھ اعلیٰ مرتبوں کے اور

الْمَقَامَاتِ وَالْمَوْثِقَاتِ بِأَوْصَافِ الْبِرَّاهِينِ وَ

مقاموں کے اور مدد دئے گئے ساتھ بہت رشن دلہوں اور

الدَّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالرَّعْبِ وَالْمَعْجَزَاتِ

رہنماؤں کے مدد کئے گئے ساتھ رعب اور معجزوں کے

وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَبْدِيِّ وَالنُّورِ الْقَدِيمِ

اور جوہر بزرگ دائمی اور نور قدیم

الْمَحْمَدِيِّ السُّرْمَدِيِّ سَيِّدِ نَامِحْمَدِيَّةِ

محمدی سمرمدی کے سردار ہمارے محمد

الْمَحْمُودِ فِي الْإِبْجَادِ وَالْوَجُودِ الْفَاتِحِ لِكُلِّ

پسندیدہ پیدائش اور ہستی کے ابتداء کرنے والے واسطے

شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةَ الْمَشَاهِدَةِ وَ

ہر دیکھنے والے اور دیکھے گئے اور درگاہ مکانوں روشنی اور

الشَّهَادَةِ نُورٌ كُلُّ شَيْءٍ وَهَذَا وَسِرِّ كُلِّ

ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور مجید ہر

سِرٍّ وَسَنَاةُ الَّذِي شُقِقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ

مجید کے اور شنی اس کی وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے مجید

وَأَنْفَلَقَتْ مِنْهُ أَنْوَارُ السِّرِّ الْبَاطِنِ

اور روشن ہونے اس سے انوار مجید باطن کے

وَالنُّورِ الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ

اور نور ظاہر کے سردار کامل ابتداء کرنیوالے

الْمَخَاتِمِ الْأَوَّلِ الْأَخِيرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ

تمام کرنیوالے اول آخر باطن ظاہر

الْعَاقِبِ الْحَاشِرِ التَّاهِي الْأُمِرِ التَّاصِمِ

پیچھے آنیوالے اٹھانیوالے منع کرنیوالے حکم کرنیوالے نصیحت کرنیوالے

التَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَانِتِ الذَّاكِرِ

مدد کرنیوالے صابر شاکر دعا مانگنے والے یاد کرنیوالے

السَّامِحِ الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ الْمُؤْمِنِ

مٹانیوالے بزرگ غالب حمد کرنیوالے یقین کرنیوالے

الْعَابِدِ الْمَتَوَكِّلِ الزَّاهِدِ الْقَائِمِ الْقَاعِدِ

عبادت کرنے والے توکل کرنے والے زہد کرنے والے قائم نمازیں قاعد نمازیں

التَّوَكِّلِ التَّاجِدِ التَّابِعِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ

توکل کرنے والے سجدہ کرنے والے تابع گواہ دوست

الْحَمِيدِ الْبُرْهَانِ الْحُجَّةِ الْمُبْتَاعِ

ستودہ دلیل حجت اطاعت کئے گئے

الْمُخْتَارِ الْخَاصِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَنْصِرِ

برگزیدہ برگزینے والے فروتنی کرنے والے نیک مرد پرست گئے

الْحَقِّ الْمَبِينِ طَظْهَ وَيَسْ طِ الْمَرْمَلِ

راست روشن ظاہر و پس کسب پوش

الْمُدَّثِرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

چادر لپیٹنے والے سردار رسولوں کے اور پیشوا پرہیزگاروں کے

وَأَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ سِرَاتِ الْعَالَمِينَ

اور ختم کرنے والے نبیوں کے اور دوست پروردگار تمام جہانوں کے

النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمَجْتَبَى الْحَكِيمِ

پینمبر برگزیدہ اور رسول برگزیدہ منصف

الْعَدْلِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ

عادل مہربان خبردار دانا بہت دانا



الْعَزِيزُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ

غالب مہربان رحم کرنے والے بخشنے والے شکر کرنے والے

الْعَلِيُّ الْكَرِيمُ نُورِكَ الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ

برتر بزرگ نور تیرے قدیم اور راہ تیری

الْمُسْتَقِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

جو سیدھی ہے محمد بندے تیرے اور رسول تیرے

وَصَفِيَّتِكَ وَخَلِيَّتِكَ وَحَبِيبِكَ وَوَلِيِّتِكَ

اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور حبیب تیرے اور ولی تیرے

وَنَبِيِّتِكَ وَآمِينَتِكَ وَدَلِيلَتِكَ وَنَجِيَّتِكَ

اور نبی تیرے اور امانت دار تیرے اور تیرا راستہ دکھانے والے اور ہمارا تیرے

وَنُخَبَتِكَ وَذَخِيرَتِكَ وَخَيْرَتِكَ وَامَامَتِكَ

اور برگزیدہ تیرے اور ذخیرہ تیرے اور مختار تیرے اور پیشوا

الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ

تیرے اور کھینچنے والے نیکی کے اور رسول رحمت کے نبی

الْأَدْنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْأَبْطَحِيِّ

اتنی عربی قریشی ہاشمی ابطحی

الْمَكِّيِّ الْمَدِينِيِّ الْيَهُودِيِّ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ

مکی مدنی تمامہ کے رہنے والے گواہ، گواہ بنائے گئے

الْوَلِيُّ الْمُقَرَّبُ الْعَبْدُ الْمَسْعُودِ الْحَبِيبِ

دوست نزدیک کئے گئے بندے نیک دوست

الشَّفِيعُ الْحَسِيبُ الرَّفِيعُ الْمَلِيحُ الْبَدِيعُ

مغارش کرنوالے صاحب حسب بلند مرتبہ ملاحظت والے نادر

الْوَاعِظُ الْبَشِيرُ السَّنِيْرُ الْعَطُوفُ

نصیحت کرنوالے خوشخبری دینے والے ڈرسانے والے بہت مہربان

الْحَلِيمُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الطَّيِّبُ

برودبار سخی بخشش کرنوالے پاک

السُّبَّارُ الْمَكِينُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ

برکت والے صاحب مرتبہ سچے سچا کئے گئے

الْأَمِينُ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السِّرَاجُ

اماندار بلانے والے تیری طرف تیرے اذن سے چراغ

السَّنِيرُ الَّذِي أَدْرَكَ الْحَقَائِقَ بِجَمِيَّتِهَا

روشن ایسے جس نے جانا حقیقتوں کو تمام کمال

وَفَازَ وَفَاقَ الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِهَا وَجَعَلَتْهُ

اور بالا ہوئے تمام مخلوقات پر اور بنایا تو نے ان کو

حَبِيبًا وَنَاجِيَتَهُ قَرِيبًا وَادْنِيَتَهُ

دوست اور ہمارا بنایا تو نے ان کو نزدیک کا، اور نزدیک کیا ان کو

رَقِيبًا وَخَتَمْتَ بِهَا الرِّسَالَاتِ وَالسَّلَالَاتِ

بجائ نگہبانی اور ختم کی تو نے ان پر رسالت اور رہنمائی

وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَنَصَرْتَهُ

اور خوشخبری اور ڈرانے اور نبوت کو اور مدد کی تو نے ان کی

بِالرَّعْبِ وَظَلَلْتَهُ بِالسُّحُبِ وَرَدَدْتِ

رعب سے اور سایہ دیا تو نے ان کو بادلوں کا اور پھیرا تو نے

لَهُ الشَّمْسَ وَشَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقْتَ

ان کے واسطے آفتاب اور ٹکڑے کیا واسطے ان کے چاند اور گویا کیا تو نے

لَهُ الضُّبَّ وَالظُّبَى وَالذُّبَّ وَالْجُدَّعَ وَ

واسطے ان کے گوہ اور ہرن اور بھیڑیا اور شلخ درست اور

الذُّرَاعَ وَالْجَنْبَلَ وَالْجَبَلَ وَالسُّدَارَ وَ

بازو اور اونٹ اور پہاڑ اور بیری او

الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَأَنْبَعْتَ مِنْ أَصَابِعِهِ

درخت اور پتھر اور نکالا آپ کی انگلیوں سے

الْمَاءَ الزَّلَّالَ وَأَنْزَلْتَ مِنَ السُّرِّ بِدَعْوَتِهِ

پانی میٹھا اور اتارا تو نے ابر سفید سے دعا ان کی سے

فِي عَامِ السَّحْلِ وَالْجَدِّبِ وَأَيْلِ الْغَيْثِ

سال قحط اور خشکی کے بڑی بوندوں کو

وَالْمَطَرِ فَأَعَشَوْشَبَ مِنْهُ الْقَفْرُ وَالصَّخْرُ

اور بینہ پھر ہری ہوئی اس سے سوکھی اور پتھری

وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ وَالْحَجْرُ وَالْمَدْرُ

اور کڑی اور نرم زمین اور ریگستان اور پتھر اور اینٹ

وَأَسْرِيَتْ بِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور لے گیا ان کورات کے منقرعے میں مسجد حرام سے

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَى

مسجد اقصیٰ تک آسمانوں بلند تک

إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ

سدرۃ المنتہیٰ تک اس مکان تک جو گوشہ کمان یا اس سے

أَدْنَىٰ وَأَرَبَّتَهُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ وَأَنْتَهُ

کم تھا اور دکھائی تو نے انکو نشانی بڑی اور پہنچا یا تو نے انکو

الْغَايَةَ الْقُصْوَىٰ وَأَكْرَمْتَهُ بِالسَّخَابَةِ

نہایت دور تک اور عزت دی تو نے ان کو ہمکلامی سے

وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ وَالشَّاهِدَةِ

اور نگہبانی اور روبرو ہونے اور حاضر ہی میں جانے سے

وَالْمُعَايِنَةِ بِالْبَصْرِ وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ

اور دیکھنے سے مانتہ آنکھ کے اور خاص کیا تو نے ان کو وسیلہ سے

الْعُظْمَىٰ وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ الْفَرَجِ

بزرگ سے اور شفاعت بڑی دن خون

الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَجَمَعَتْ لَهُ جَوَامِعَ

بڑے کے محشر ہیں اور جمع کیا تو نے ان کے لئے جمع کر نوالی

الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَجَعَلَتْ أُمَّتَهُ

باتیں اور جواہر حکمتوں کے اور کیا تو نے ان کی امت کو

خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرَتْ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

بہترین امتوں کے اور بخشتا تو نے ان کو جو گزر چکا

ذُنُوبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الْكَلِمِ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ

اور جو بعد میں ہے جس نے پہنچایا رسالت کو اور

أَدَّى الْأَمَانََّةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ

ادا کی امانت اور نصیحت کی امت کو اور دور کیا

الْغُمَّةَ وَجَلَّى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ

غم کو اور دور کیا تاریکی کو اور جہاد کیا راہ

اللَّهِ وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّىٰ آتَاهُ الْيَقِينَ ۝

خدا میں اور عبادت کی اپنے رب کی یہاں تک کہ آیا آپ کو وہاں،

اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا يَغِيظُ

اے اللہ اٹھا ان کو مقام محمود میں کہ رشک کریں

فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ عَظْمَهُ فِي

اس میں پہلے اور پچھلے اے اللہ بڑائی دے تو ان کو

الدُّنْيَا بِأَعْلَى ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَارِ

دنیا میں اس کا ذکر بلند کرنے اور اس کے دین کو غالب کرنے اور اس

شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَ

کی شریعت باقی رکھنے سے اور آخرت میں اس کی شفاعت سے اسکی امت میں اور

أَجْرًا أَجْرَهُ وَمَثْوِيَّهُ وَأَيْدِ فَضْلِهِ لِلْأَوْلِيَيْنِ وَ

زیادہ کوسے تو اجر اور ثواب ان کا اور ہمیشہ کر فضل ان کا اولین اور

الْآخِرِينَ بِالسَّمَامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْرِيْبِهِ

آخرین پر مقام محمود میں اور مقدم کرنے ان کے

عَلَى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالشَّهَادَةِ اللَّهُمَّ

تمام مقربین پر ساتھ شہود کے اے اللہ

تَقْبِلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا

قبول کر تو سفارش ان کی بڑی اور بلند کر تو درجہ بڑا ان کا

وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا آتَيْتَ

اور دے ان کو مقصد ان کا آخرت اور دنیا میں جس طرح دیا تو نے

أَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ

ابراہیم اور موسیٰ کو اے اللہ کر ان کو بڑے بزرگ

عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ

بندوں اپنے سے ازراہ بزرگی اور کرامت اور بلندتران کے سے

عِنْدَكَ دَرَجَةٌ وَمِنْ أَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ

نزدیک تیرے از روئے درجہ، اور بزرگ تران کے سے نزدیک تیرے

خَطَرًا وَمِنْ أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةٌ

بمحافظ قدر اور توانا تران کے سے نزدیک تیرے بجا شفاعت،

اللَّهُمَّ عَظِّمْ بَرَهَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ

اے اللہ عظمت دے ان کی برہان کو اور ظاہر کر نبوت کی دلیل ان کی اور پوری کر

مَأْمُولَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ

آرزوان کی بیچ اہل خانہ اور اولاد اس کی کے اے اللہ

اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ

کر ان کی اولاد اور امت سے بعد ان کے وہ چیز کہ ٹھنڈی ہو جس سے

وَأَجِرْهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَن

آنکھ ان کی اور بدل دے ان کو بہ سے اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو اس کی

أُمَّتِهِ وَأَجِرِ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا

امت سے اور بدل دے تمام نبیوں کو بہترین

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ دُود و سلام بھیج اور ہر روز ہمارے محمد کے

عَدَدًا مَا شَهِدَتْهُ الْأَبْصَارُ سَمِعَتْهُ

اتنے کہ دیکھیں اسے آنکھیں سنیں اسے

الْأُذُنُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ

کان اور درود و سلام بھیج ان پر گنتی ان کی جو

صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ

درود بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج ان پر گنتی

مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

ان کی جو نہ درود بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج ان پر

كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ

جیسے پسند کرے تو اور راضی ہو کہ درود بھیجا جائے ان پر اور

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا أَمَرْنَا أَنْ تُصَلَّى

درود و سلام بھیج ان پر جیسے حکم دیا تو نے ہم کو کہ درود بھیجیں ہم

عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي

ان پر اور درود و سلام بھیج ان پر جیسے کہ لائق ہے یہ کہ

أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

درود بھیجا جائے ان پر، اے اللہ درود و سلام بھیج

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

ان پر اور ان کی آل پر گنتی نعمتوں اللہ تعالیٰ کے



وَأَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور افضل الشوں اسکی کے اے اللہ درود و سلام بھیج اوپر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

سرور ہمارے محمد اور ان کی آل اور اصحاب اور

أَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

اولاد اور اولاد اولاد اور بیبیوں اور اولاد

وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ وَعَشِيرَتِهِ

اور اہل بیت اور اولاد اور خویش

وَأَطْفَالِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ وَ

اور اطوار اور خسران اور دامادوں اور

أَحْبَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ

احباب اور اتباع اور گروہ اور مددگار

خَزَائِنِ اسْرَارِهِ وَمَعْدِنِ انْوَارِهِ كُنُوزِ

نگہبان بھیدوں اور کانیں نوروں گنج

الْحَقَائِقِ وَهُدَاةِ الْخَلَائِقِ نَجُومِ

اصلوں اور رہنما مخلوقات ان کے پر جو ستارے ہیں

الْاِهْتِدَاءِ لِيَمِّنَ اقْتِدَىٰ بِهِمْ وَسَلِّمْ

ہدایت کے جو ان کی اقتدار کے اور سلام بھیج

تَبْلِيغًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضًا عَنْ

سلام بھیجنا بہت ہمیشہ ہمیشہ اور خوش کر

كُلِّ الصِّحَابَةِ رِضَى سَرْمَدًا عَدَدَ

سب پاروں اس کے سے خوشی ہمیشہ گنتی

خَلْقِكَ وَنِرْنَةَ عَرْشِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ

مخلوقات اپنی کے اور مقدار عرش اپنے کے اور رضا اپنی کے

وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ

اور سیاہی کلموں اپنے کے جب تک ذکر کریں ذکر کرنیوالے

وَعَفْلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ صَلَوَاتُكَ تَكُونُ

اور غفلت کہیں غفلت کریں غفلت کرنیوالے ایسا درود کہ ہو

لَكَ رِضَاءٌ وَوَلِحَقِّهِ أَدَاءٌ وَلَنَا صَلَاحًا

واسطے تیرے رضا اور اس کے حق کے لئے ادا اور واسطے ہمارے بہتری

وَأْتِيهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

اور دے اس کو وسیلہ اور فضیلت اور درجہ

الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

بزرگ بلند اور پہنچا ان کو مقام

الْمَحْمُودِ وَاللِّوَاءَ الْمَعْقُودَ وَالْحَوْضَ

محمود میں اور نشان بستہ اور حوض

السُّورُودِ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَسِيمِ إِخْوَانِهِ

کہ وارد ہو گئے اور درود بھیج اسے رب اوپر ان کے تمام بھائیوں کے

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ

نبیوں اور رسولوں اور ولیوں

وَالصَّالِحِينَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ

اور نیکوں اور فرشتوں تیرے نزدیکوں کے اور

عَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ أَبِي سَحْبَانَ

اوپر سردار ہمارے شیخ محمدی الدین ابو محمد

عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَكِينِ الْأَمِينِ صَلَوَاتُ

عبدالقادر کے جو صاحب مرتبہ امین ہیں رحمتیں

اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ کی ان سب پر اے اللہ رحمت کر

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اوپر سردار ہمارے محمد پر اور اوپر آل سردار ہمارے

مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورًا وَرَحْمَةً

محمد کے جو پہلے ہے خلق سے نورہ ان کا اور رحمت ہے

لِلْعَالَمِينَ ظُهُورًا عَدَدَ مَا مَضَى مِنْ

داسطے جہانوں کے ظہور ان کا گنتی اس کی جو گزر چکی

خَلَقْتَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ

خلق تیری اور جو باقی ہے اور جو نیک ہے ان سے

وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدُوَّ وَحَيْطُ

اور جو بد بخت ہے ایسی رحمت کہ گہرے گنتی کو اور احاطہ کرے

بِالْحَدِّ صَلَوةً لِأَغَايَةِ لَهَا وَلَا اِنْتِهَاءً

نہایت کو ایسی رحمت کہ جس کی حد نہیں اور انتہا نہیں

وَلَا اَمَدًا لَهَا وَلَا اِنْقِضَاءَ صَلَوةٍ اَلَّتِي

اور نہ اندازہ اور نہ ختم ہونا اس رحمت کا کہ

صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةً مَّعْرُوضَةً عَلَيْهِ مَقْبُولَةً

بھیجی تو نے ان پر رحمت پیش کی گئی ان پر مقبول

لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ اِلَيْهِ صَلَوةً دَائِمَةً

ان کے نزدیک محبوب ان کو رحمت ہمیشہ کی

بِدَاوَامِكَ وَبِاقِيَةِ بَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا

ساتھ ہمیشگی تیری کے اور باقی ساتھ بقا تیری کے نہیں انتہا اس کی

دُونَ عِلْمِكَ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَ

نزدیک علم تیرے کے، ایسی رحمت جو تجھے اور ان کو پسند ہو اور

تُرْضِي بِهَا عَنَّا صَلَوةً تَسْلُ الأَرْضَ وَ

خوش ہو تو بسبب اس کے ہم سے ایسا درد کہ بھروسے زمین اور

السَّمَاءِ صَلَوَةً تَسْتَجِيبُ بِهَا دَعَائِنَا وَ

آسمان کو وہ درود کہ قبول کرے تو بسبب اس کے دعا ہماری اور

تُرْكِي بِهَا نَفُوسَنَا وَ تُحْيِي بِهَا قُلُوبَنَا

اور پاک کرے تو ہماری جانیں اور زندہ کرے دل ہمارے

وَتُحِلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ تُفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ

اور کھولے تو اس سے گرہیں اور دور کرے تو اس سے سختیاں

وَيَجْرِي بِهَا لَطْفُكَ فِي أَمْرِي وَأُمُورِ

اور جاری ہو اس سے مہربانی تیری میرے کام اور کاموں میں

السُّلَيْمِينَ وَ بَارِكْ لَنَا عَلَى الدَّوَامِ وَعَافِنَا

مسلمانوں کے اور برکت دے تو ہمیں اور ہمیشگی کے اور بچاؤ ہمیں

وَ اهْدِنَا وَ اْمُدِدْنَا وَ اجْعَلْنَا اٰمِنِينَ وَ

اور مدد دے ہم کو اور امداد کر ہماری اور نہ کہ ہم کو نڈر اور

يَسِّرْ لَنَا اُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَ

آسان کر کام ہمارے ساتھ آرام کے واسطے دلوں ہمارے کے اور

اَبْدَانِنَا وَ السَّلَامَةَ وَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا

بدنوں ہمارے کے اور ساتھ سلامتی اور عافیت بیچ دین ہمارے کے

وَ دِينَانَا وَ اٰخِرَتِنَا وَ تَوْفِقَنَا عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

اور دینا اور آخرت ہماری کے اور مار تو ہمیں قرآن اور طریقہ پیغمبر پر

وَأَجْمَعُنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ

اور اکٹھا کر ہمیں ساتھ حضرت کے جنت میں بغیر عذاب

بُئِيسَ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَضَبَانَ وَلَا تُنْكَرُ بِنَا

سخت کے درانحالیکہ تو خوش ہو ہم سے اور نہ آزما ہمیں

وَأَخْتِمْنَا بِمَا كَفَرْنَا بِكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِلَا

اور خاتمہ کر ہمارا اپنی طرف ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر

مِحْنَةٍ أَجْمَعِينَ ۝ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ

محنت کے سب کا پاکی ہے پروردگار کو پروردگار بزرگی کا

الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى

اس سے جو بیان کرتے ہیں شرک اور سلامتی اوپر

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کو جو پالنے والا عالموں کا

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

ساتھ تیری رحمت کے لے بڑے رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے۔

# درود اکبر اعظم

## سید غوث الاعظم

رضی اللہ عنہ

درود اکبر اعظم، مصنف غوث اعظم رضی اللہ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ

تعریف کرتے ہیں ہم اللہ کی اور درود بھیجتے ہیں اس کے رسول بزرگ پر، اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةً

درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے محمد پر ایسا درود جس سے

تَقْبَلُ بِهَا دُعَاؤَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

قبول کرے تو دعا ہماری، اے اللہ رحمت بھیج اوپر سردار ہمارے

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةً تَسْمَعُ بِهَا اسْتِغَاثَتَنَا

اور نبی ہمارے محمد پر ایسی رحمت کہ سنے تو اس سے فریاد

وَيَدَاؤَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اور پکار ہماری، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار ہمارے اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوٰةً تَسْلِمُ بِهَا اِيْمَانَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

محمد کے وہ درود کہ سلامت رکھے تو اس سے ایمان ہمارا، اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَقْوَىٰ بِهَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ قوی کر دے تو اس سے

إِيقَانَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

یقین ہمارا، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوبَنَا اللَّهُمَّ

محمد کے وہ درود کہ بخش دے اس سے گناہ ہمارے اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَسْتُرُ بِهَا عِيُوبَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چھپا دے تو اس سے عیب ہمارے، اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو ہماری اس سے

إِكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

گناہ کرنے سے اے اللہ درود بھیج تو اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَوْفِقُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ توفیق دے تو ہمیں

لِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس سے نیک کام کرنے کی، اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار



وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَفْلِحُ بِهَا غَمَاتُ دِينِنَا

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ غلامی دے تو ہمیں اس کے ذریعہ اس چیز سے جو ہلاک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

کرے ہم کو، اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوَةٌ تَكْسِبُ بِهَا مَا يَنْجِينَا اللَّهُمَّ صَلِّ

وہ درود کہ نصیب کرے تو ہم وہ جو نجات دے ہم کو، اے اللہ درود بھیج تو

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْنِبُ

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ دور کرے تو

بِهَاعِنَا الشَّرَّ كُلَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس سے ہم سے شر تمام کو اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسُنِّحُنَا بِهَا الْخَيْرَ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ نصیب کرے تو ہم کو اس سے تمام

كُلَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

بھلائیاں، اے اللہ درود بھیج تو اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوَةٌ تَحْسِنُ بِهَا إِخْلَاقَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

وہ درود کہ اچھے کرے تو اس سے اخلاق ہمارے، اے اللہ درود بھیج تو

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَصْلِحُ

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ نیک کرے تو

بِهَا أَحْوَالَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

اس سے احوال ہمارے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعْصِمُنَا بِهَا عَنِ

نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ بجائے تو ہم کو بسبب اس کے

الْمَعْصِيَةِ وَالْغَوَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

گناہ اور گمراہی سے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا اتِّبَاعَ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ نصیب کرے تو اس سے اتباع

السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سنت اور جماعت کی، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَبْعِدُنَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ دور کرے تو ہم کو

بِهَا مِنْ إِقْتِرَانِ الْأَفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اس سے نزدیک ہونے آفتوں سے، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكَلِّمُنَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ بچا دے تو

بِهَا عَنِ الزَّلَّاتِ وَالْمَهْفَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہم کو اس کے سبب لغزٹوں سے اور خطاؤں سے، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحْصِلُ

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ پھر کرے تو

بِهَا أَمَّا لَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

اے اللہ درود بھیج اور سردار ہمارے اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُخْلِصُ بِهَا لَكَ

نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ خالص کرے تو اس سے اپنے لئے

أَعْمَالَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

عمل ہمارے، اے اللہ درود بھیج اور سردار اور نبی ہمارے

و مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا التَّقْوَى زَادَنَا

محمد کے وہ درود کہ کرے تو بسبب اس کے تقویٰ کو زیادہ ہمارا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج اور سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوةً تَزِيدُ بِهَا فِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا

وہ درود کہ زیادہ کرے تو اس سے اپنے دین میں کوشش ہماری،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ درود بھیج اور سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَرْزُقْنَا بِهَا الْإِسْتِقَامَةَ فِي طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ

نصیب کرے تو ہمیں اس سے استقامت اپنی عبادت میں، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَسْنَحُنَا بِهَا الْاِنْسُ بِعِبَادَتِكَ اَللّٰهُمَّ

نصیب کرے تو اس سے الفت ساتھ اپنی عبادت کے ، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْسِنُ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ اچھا کرے

بِهَانِيَّتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اس سے نیت ہماری، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْنَحُنَا بِهَا اَمِنِيَّتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد کے ، وہ درود کہ پوری کرے تو اس سے اُردو نہیں ہماری، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجِيرُنَا بِهَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ بچائے تو اس کے سبب ہم کو

مِن شَرِّ الْاِنْسِ وَالْجَانِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

انسانوں اور جنوں کے شر سے، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَعِيذُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ پناہ دے تو ہم سبب اسکے

مِن شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

نفس اور شیطان کے شر سے، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْفَظُنَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو ہماری

بِهَامِنَ الدَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اس کے سبب ذلت اور خواری سے ، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَعِيدُنَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ پناہ دے تو ہمیں اس کے سبب

بِهَامِنَ الْقِسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سختی دل اور غفلت سے ، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو اس کے

عَمَّا يَشْفَلُنَا عَنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سبب اس چیز سے جو باز نہ کھے تجھ سے ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَوْفِقُنَا بِهَا لِمَا تَقْرَبُنَا

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ توفیق دے تو ہمیں اس سے اس چیز کی

مِنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

جو تیرے قریب کرے ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوةٌ تَجْعَلُ بِهَا سَعِينًا مَشْكُورًا وَعَمَلَنَا

وہ درود کہ کرے تو اس کے سبب کوشش ہماری مشکور اور عمل ہمارا

مَقْبُولًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

مقبول ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَاةً تَسْنَحُنَا بِهَا عِزًّا وَقَبُولًا اللَّهُمَّ صَلِّ

وہ درود کہ دے ہم کو اس سے عزت و قبولیت ، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْطَعُ بِهَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ قطع کر دے اس سے

عَمَّنْ سِوَاكَ إِحْتِيَاجَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے سوا سے محتاجی ہماری ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدِيمُ بِهَا نِعْمَاتِكَ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ ہمیشہ کرے تو اس سے اپنی نعمتیں

إِيْتِهَاجَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

دافر ہم پر ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَاةً تَكُونُ بِهَا فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا وَكَيْلًا

وہ درود کہ ہو تو بسبب اس کے ہمارے تمام امور میں کار ساز ہمارا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَكُونُ بِهَا الْقَضَاءُ حَوَائِجِنَا كَيْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ

ہو تو بسبب اس کے واسطے پورا کرنے حاجتوں ہماری کے ضامن ، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَعِينُنَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ پناہ دے۔ تو ہم کو

بِهَائِمِنْ جَمِيعِ الْبَلَايَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

اس سے تمام بلاؤں سے ، اے اللہ درود بھیج اور سردار

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا جَزِيْلَ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ عطا کرے تو ہم کو اس کے سبب بڑی

الْعَطَايَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

عطائیں . اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا عَيْشَ الرَّغَدِ اِوَاللّٰهُمَّ

وہ درود کہ نصیب کرے تو ہم کو اس سے تازہ رزق ، اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمْنَحُنَا

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ دے تو ہم کو

بِهَاءِ عَيْشِ السُّعْدَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

اس سے روزی نیکیوں کی ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيعَ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ آسان کرے تو اس سے ہم پر تمام

الْاُمُوْر اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

کلام ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَاةً تَدِيمُ بِهَا بَرْدَ الْعَيْشِ وَالسُّرُورِ اللَّهُمَّ

وہ درود کہ ہمیشہ رکھے تو اس سے ٹھنڈک عیش اور خوشی کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَبَارِكُ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ برکت دے

بِهَا فِيمَا أَعْطَيْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَ

اس کے سبب اس میں جو تو نے ہم کو دیا، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا الرِّضَا بِمَا

نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ نصیب کرے تو اس سے ہم کو رضا اس میں جو

أَتَيْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

دیا تو نے ہم کو، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَاةً تُزَكِّي بِهَا عَنِ النُّهْوَى نَفُوسَنَا اللَّهُمَّ

وہ درود کہ پاک کرے تو اس سے خواہشات نفسانی ہماری، اے اللہ

صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَطَهِّرُ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ پاک کرے

بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

اس کے سبب اپنے سوا سے دل ہمارے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُصَغِّرُ بِهَا الدُّنْيَا فِي

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ خیر کرے تو اس سے دنیا کو ہماری



عِيُونِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

آنکھوں میں، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلْوَةً تَعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ

وہ درود کہ بڑی کرے تو اس سے عظمت اپنی ہمارے دلوں میں، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَرْضِينَا بِهَا بِقَضَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

راضی کرے تو اس سے ہم کو ساتھ قضا اپنی کے، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تُوْرِعُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

شُكْرَ نِعْمَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

شکر اپنی نعمتوں کا، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تُصَحِّحُ بِهَا تَوَكُّلَنَا

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ صحیح کرے تو اس سے توکل

وَاعْتِمَادَنَا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اعتماد ہمارا اپنے پر، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تُحَقِّقُ بِهَا وَتُؤَقِّنَا

اور نبی ہمارے محمد کے، وہ درود کہ ثابت کرے تو اس سے ہمارا اچھد

وَالْتَجَانْنَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

اور التجاہماری اپنی طرف ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى

نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ راضی کرے تجھ کو اور حضور کو اور راضی ہو تو

بِهَاعِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اس کے سبب ہم سے ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوَةٌ تَجِيرُ دِيَارَنَا مِنَ الْهَمِّ صَلِّ

وہ درود کہ پورا اے تو اس کے سبب جو فوت ہوا ہم سے ، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعِيدُنَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ بچائے تو ہم کو

بِهَامِنَ الْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اس کے سبب تکبر اور دکھلاوے سے ، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو ہماری

مِنَ الْحَسَدِ وَالْكِبْرِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اس کے سبب حسد اور تکبر سے ، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكْثِرُ بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ غم کر دے تو اس سے

شَهَوَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

خواتین ہماری اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوَةٌ تَجْرِيُ بِهَا عَادَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وہ درود کہ عمدہ کرے تو بسبب اس کے عادتیں ہماری، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَصْرِفُ بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ پھیرے تو اس کے سبب

عَنِ الدُّنْيَا وَلِذَلِكَ قُلُوبُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دنیا اور اس کی لذتوں سے دل ہمارے، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْمَعُ بِهَا فِي

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ جمع ہو جائیں اس کے سبب

الِإِشْتِيَاقِ إِلَيْكَ هَمُّوْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تیرے اشتیاق میں قصد ہمارے، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَحِّشُنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ ڈرائے تو ہم کو اس کے سبب

عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اپنے غیر سے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَسِّدُنَا بِهَا بِقُرْبٍ وَلَا تَكُ

محمد کے وہ درود کہ انس پیدا کرے تو ہمارے ساتھ اس سے اپنی محبت کی قربت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَقْرُبُنَا فِي مُنَاجَاةِكَ عِيُونَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ٹھنڈی ہوں اس سے تیری مناجات میں آنکھیں ہماری اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحْسِنُ بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ اچھا کرے تو اس سے

بِكَ ظَنُونَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اپنے ساتھ گمان ہمارے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

بِحَمْدِ صَلَاةٍ تَشْرَحُ بِهَا بِمَعْرِفَتِكَ صُدُورَنَا

محمد کے وہ درود کہ کھول دے اس سے تو اپنی معرفت میں دل ہمارے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَدِيمٍ بِهَا فِي ذِكْرِكَ وَفِكْرِكَ سُرُورَنَا

ہمیشہ کرے تو بسبب اس کے اپنے ذکر و فکر میں سرور ہمارا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَرْفَعُ بِهَا عَن قُلُوبِنَا الْحُجُبَ وَالْإِسْتَارَ

اٹھا دے تو اس کے سبب ہمارے دلوں سے حجاب اور پردے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے۔ وہ درود کہ

تَمْنَحُنَا بِهَا شَهْرَكَ فِي جَمِيعِ الْأَشَارِ

نصیب کرنے تو ہم کو اس کے شب بھنوری اپنی تمام آثار میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَقْطَعُ بِهَا حَدِيثَ نَفْسِنَا بِأَعْلَانِكَ اللَّهُمَّ

قطع کر دے اس سے بات نفسوں ہمارے کی ساتھ اپنے نشانوں کے، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تُبَدِّلُ بِهَا هَوَا جَسَدِنَا بِإِلَهَائِكَ اللَّهُمَّ

بدل دے تو اس سے خواہشات ہمارے ذلوں کی اپنے الہام سے، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تَفِيضِ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ شروع کرے تو

بِهَا عَلَيْنَا جَذَابَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس سے ہم پر جذبات اپنے، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تَشْبِيلِنَا بِإِنْفِخَاتِكَ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ شامل کرے تو ہم کو اس سے رونا اپنی کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تُحِلُّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّائِرِينَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ

کھول دے تو ہمارے لئے اس سے مراتب اپنے ہمرانوں کی ، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تَرْفَعُ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ بلند کرے تو

بِهِمَا مَنَازِلَنَا وَمَكَانَتَنَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اس کے منازل اور مرتبے ہمارے اپنے نزدیک اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تَسْحَقُ بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ گم ہو جاویں اس سے

فِي إِرَادَتِكَ أَمَا لَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ارادے تیرے میں آرزوئیں ہماری ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تَسْحَقُ بِهَا فِي

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ مٹ جائیں اس سے تیرے

أَفْعَالِكَ أَمَا لَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

کاموں میں کام ہمارے ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تَقْنِي بِهَا فِي صِفَاتِكَ

نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ فنا ہو جائیں اس سے صفات تیری میں

صِفَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

صفات ہماری، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَاةً تَسْحُبُ بِهَا فِي ذَاتِكَ ذَوَاتِنَا اللَّهُمَّ

وہ درود کہ مٹ جائیں اس سے ذات تیری میں ذاتیں ہماری، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُحَقِّقُ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ ثابت کرے

بِهَائِلِكَ لِقَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس سے اپنی طرف ملنا ہمارا، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدِيمُ بِهَا تَوَاتُرُ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ ہمیشہ کرے تو اگلے ساتھ پے درپے

النَّوَارِكُ صِفَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

انوار اپنے کے صفاتی ہماری کو، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْلُكُنَا بِهَا مَسَلَكَ

اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ چلائے تو ہم کو اس سے مسک

أَوْلِيَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

اپنے اولیاء پر، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْوِينَا بِهَا مِنْ شَرَابِ صِفِيَاكَ

محمد کے وہ درود کہ میرا کرے تو ہم کو اس سے اپنے اصفیاء کی شراب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تُوصِلُنَا بِهَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

پہنچائے تو ہم کو اس سے اپنی طرف، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُدِيمُ بِهَا حُضُورَنَا

نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ ہمیشہ کرے تو اس سے ہماری حاضری

إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اپنی طرف، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوةً تَهْوِنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ

وہ درود کہ آسان کرے تو اس سے ہم پر سختی موت کی اور

غَمْرَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

تنہی اس کی، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوةً تُجِيرُنَا بِهَا مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَكَرْبَتِهِ

وہ درود کہ پناہ دے تو ہمیں اسکے سبب قبر کے خوف اور سختی اس کی سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَسْتَلِّ بِهَا قُبُورَنَا بِأَنْوَارِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بہتر سے تو اس کے سبب قبریں ہماری انوار رحمت سے، اے اللہ درود بھیج



عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے ، وہ درود کہ کر دے تو اس سے

قُبُورَنَا وَوَضَعَهُمْ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

قبروں ہماری کو باغ جنت کے باغوں سے ، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْشُرُنَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ حشر کرے تو ہمارا

بِهَامَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اس سے ساتھ نبیوں اور صدیقوں کے ، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَبْعَثْنَا بِهَا

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود اٹھائے تو ہم کو اس کے

مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سبب ساتھ شہیدوں اور نیکوں کے ، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتَنْحِنَا بِهَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ نصیب کرے تو ہم کو اسکے سبب

قُرْبَهُ وَشَفَاعَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

قرب اور شفاعت ان کی ، اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً يُفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا

نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ پلٹے تو اس کے سبب ہم پر

بَرَكَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

برکتیں اپنی اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ

محمد کے وہ درود کہ حفاظت کرے تو ہماری اس کے سبب ہر

سَوْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

برائی سے قیامت کے دن، اے اللہ درود بھیج اوپر

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَشْمَلُنَا

سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ گھیرے ہم کو

يَوْمَ الْجَزَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ

قیامت کے دن ساتھ رحمت اور بزرگی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوةً تُثَقِّلُ بِهَا مِيزَانَنَا اللَّهُمَّ

وہ درود کہ بھاری کرے تو اس کے سبب میزان ہماری، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَثْبِيتِ بِهَا عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا اللَّهُمَّ

ثابت رکھے تو اس سے پھراط پر قدم ہمارے، اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

شَدُّ خَلْنَا بِهَا جَنَّتِ النَّعِيمِ بِإِحْسَابٍ

داخل کرے تو ہم کو اس سے بہشت میں بغیر حساب کے ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے

صَلَوَةٌ تَبِيحٌ لَنَا بِهَا النَّظْرُ إِلَى وَجْهِكَ

وہ درود کہ مباح کرے تو واسطے ہمارے نظر کرنے فی طرف ذات اپنی

الْحَكْرِيَوْمَ مَعَ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بزرگ کے ساتھ دوستوں کے ، اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد کے وہ درود کہ

تَنْحَلْنَا بِهَا حَبَّ إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اس سے محبت آل اور اصحاب اس کے سب کی

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

اے اللہ ہم وسیعہ پکڑتے ہیں تیری طرف سردار رسولوں کا

وَشَفِيعِ الْمَذْنِبِينَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ

اور شفیع گناہگاروں کا جو نبی رحمت کے اور شفاعت کرنے والے

الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ وَ

کرنیوالے امت کے، اے اللہ ساتھ اس عزت کے جو آپ کی تیرے نزدیک اور

بِقُدْرِهِ لَدَيْكَ نَسَأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ

آپ کی اس قدر کی جو تیرے نزدیک ہے ہم مانگتے ہیں کامیابی وقت

الْقَضَاءِ وَنَزُولِ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشِ

فیصلہ کے اور اتنا شہیدوں کا اور زندگی

السُّعْدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَمِرَافَقَةَ

نیکیوں والی اور مدد اوپر دشمنوں کے اور رفاقت

الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنُ عِبَادُكَ الضُّعَفَاءُ

نبیوں کی اور ہم بندے تیرے ہیں کمزور

لَا نَعْبُدُ سِوَاكَ وَلَا نَطْلُبُ إِذَا مَسَّنَا

نہیں عبادت کرتے ہم سوا تیرے اور نہیں مانگتے ہم جب چھوئے ہم کو

الضَّرَّ إِلَّا آيَاتِكَ فَا مِنْ رَوْعَاتِنَا وَاجِبُ

تکلیف مگر تجھ سے پس امن دے ہماری گھبراہٹ کو اور قبول کر

دَعْوَاتِنَا وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فَاعْفُ رُدُّنَا

دعائیں ہماری اور پوری کر حاجتیں ہماری پس بخش دے گناہ ہمارے

وَاسْتُرْ عِيُونََنَا يَا سَرِيعَ الْحَيْرِ يَا كَرِيمَ الْيَاحِلِيمِ

اور چھپائے عیب ہمارے اے رحم والے اے بزرگ اے بردبار

وَارْحَمْنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور رحم کر ہم پر بے شک تو اوپر ہر شے کے قادر ہے

وَبِالْاَجَابَةِ جَدِيْرَةٌ نِعْمَ السَّوْلُو

اور ساتھ قبول کرنے کے لائق ہے بہتر ہے دوست اور

نِعْمَ التَّصِيْرَةُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ

بہتر ہے مددگار اے بلند اے عظیم

يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ اللّٰهُمَّ اِنَّا عِبْدُكَ

اے جاننے والے اے حکمت والے اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں

وَجِنْدٌ مِّنْ جُنُوْدِكَ مُتَعَلِقُوْنَ بِجَنَابِ

اور شکر ہیں تیرے لشکروں سے، تعلق والے ہیں تیرے

نَبِيِّكَ مُتَشَفِّعُوْنَ اِلَيْكَ بِحَبِيْبِكَ

نبی کی جناب ہیں، شفاعت لاتے ہیں تیری طرف تیرے حبیب کی

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَيَا رَحْمَ الرَّاحِمِيْنَ

اے پالنے والے جہانوں کے اور اے بڑے رحم والے رحم کرنے والوں سے

وَصَلَّىٰ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اور درود بھیجے اللہ اوپر سردار اور نبی ہمارے محمد پر

خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَاِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ

جو خاتم ہیں نبیوں کے اور امام ہیں رسولوں کے

وَأَرْضَ عَن إِلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝

اور راضی ہو ان کی آل اور اصحاب سب پر

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

پاک ہے رب تیرا صاحب عزت کا اس چیز سے جو وصف کرتے ہیں

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور سلام ہو اوپر رسولوں کے اور تمام تعریف واسطے اللہ کے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ہے جو پھروردگار ہے جہانوں کا

# صَلَاةُ الْوَصَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جو پروردگار ہے جہانوں کا، بخشش کرنے والا

الرَّحِيمِ هَذَا يَوْمَ الْاِيَّامِ

مہربان ، مالک روز جزا کا تجھی کو

نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ هِيَ الصَّلَاةُ

پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ، درود میں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دُود و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ

مِنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ بَعْدَ مَخْلُوقَاتِهِ

اللہ اور اس کے بندوں سے گنتی اللہ کی مخلوقات کے

بِكَمَالِ حُبِّهِ وَرِضَاةِ الَّذِي جَعَلَكَ

اس کی کمال محبت اور رضائے جس نے کیا ہے آپ کو

فَخَرَّ الْأَنْبِيَاءُ يَانَبِيَّ اللَّهِ أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِينَا

مخبر نبیوں کا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے آقا اور ہادی ہیں

خُذْ بِيَدِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ تَهْدِينَا وَ

پکڑئیے ہمارے ہاتھ، گمراہی سے آپ ہمیں نکالتے ہیں اور

تُوصِلْنَا إِلَى رَبِّنَا بِحَقِّ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ

پہنچاتے ہیں طرف ہمارے رب کی بحق ماودعک ربک و

مَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

ماقبلی درود و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ!

مِنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ بَعْدَ خُلُوقَاتِهِ بِكَمَالٍ

اللہ اور اس کے بندوں کی طرف سے تعداد اس کی مخلوقات کی ساتھ کمال

حُبِّهِ وَرِضَايِهِ الَّذِي جَعَلَكَ خَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ

محبت اور اس کی رضا کے جس نے آپ کو نبیوں میں آخری بنایا

يَا صِفِيَّ اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِينَا خُذْ

اے پسندیدہ اللہ کے آپ ہمارے آقا اور ہادی ہیں پکڑئیے

بِيَدِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ تَهْدِينَا وَتُوصِلْنَا

ہاتھ ہمارے، گمراہی سے آپ ہدایت پر لاتے ہیں اور ہمیں آپ پہنچاتے

إِلَى رَبِّنَا بِحَقِّ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

ہیں ہمارے رب کی بحق سبحان الذی اسری بعبدہ



الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ

درود و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ اللہ

اللَّهُ وَعِبَادِهِ بَعْدَ مَخْلُوقَاتِهِ بِكَمَالٍ

اور اس کے بندوں کی طرف سے تعداد اس کی مخلوقات کی ساتھ کمال

حُبِّهِ وَرِضَاؤُهُ الَّذِي جَعَلَكَ تَاجَ الْأَنْبِيَاءِ

محبت اور اس کی رضا کے جس نے بنایا آپ کو تاج نبیوں کا

يَا حَبِيبَ اللَّهِ أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِيَنَا

اے اللہ کے حبیب آپ ہمارے آقا اور ہادی ہیں

وَحُذَيْبِيْنَا مِنْ الضَّلَالَةِ تَهْدِيْنَا وَ

پہنچاتے ہمارے ہاتھ، گمراہی سے آپ ہمیں نکالتے اور

تُوصِلُنَا إِلَى رَبِّنَا بِحَقِّ دِينِ فَتَدُلُّ الصَّلَاةُ

پہنچاتے ہیں ہمارے رب کی طرف بحق دینی فتنے، درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ

و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ اللہ اور

عِبَادِهِ بَعْدَ مَخْلُوقَاتِهِ بِكَمَالٍ حُبِّهِ

اس کے بندوں کی طرف سے تعداد اس کی مخلوقات کی ساتھ کمال محبت

وَرِضَاؤُهُ الَّذِي جَعَلَكَ زَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ

اور رضا اس کی کے جس نے بنایا آپ کو زینت انبیاء کی

يَا خَزَائِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنْتَ مَوْلَانَا وَ

اے اللہ کی رحمت کے خزانے آپ ہمارے آقا اور

هَادِيَنَا خُذِي بِيَدِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ تَهْدِينَا

ہادی ہماری دستگیری فرمائیے، گمراہی سے آپ ہمیں دیتے

وَتُوصِلُنَا إِلَى رَبِّنَا بِحَقِّ قَابِ قَوْسَيْنِ

اور ہمارے رب تک پہنچاتے ہیں بحق قاب قوسین

أَوَادِنِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ

ادا دینے، درود و سلام ہو آپ پر۔ یا رسول

اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ بَعْدَ مَخْلُوقَاتِهِ

اللہ اللہ اور اس کے بندوں کی طرف سے تعداد اس کی مخلوقات کی

يَكْمَالِ حُبِّهِ وَرِضَائِهِ الَّذِي جَعَلَكَ

ساتھ کمال محبت اور اس کی رضا کے جس نے بنایا آپ کو

أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ يَا كُنُوزَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ

بزرگ تر نبیوں سے اے اللہ کی معرفت کے خزانے

أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِيَنَا خُذِي بِيَدِنَا مِنَ

آپ ہمارے آقا اور ہادی ہیں ہماری دستگیری فرمائیے،

الضَّلَالَةِ تَهْدِينَا وَتُوصِلُنَا إِلَى رَبِّنَا بِحَقِّ

آپ گمراہی سے ہمیں نکالتے اور ہمارے پروردگار سے ملائے ہیں بحق

فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ الصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ

فاوحے الی عبدہ ماوحے ، درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اِلٰهِ وَعِبَادِهِ

آپ پر یا رسول اللہ اللہ اور اس کے بندوں کی طرف سے

بَعْدَ دِمَخْلُوْقَاتِهِ بِكَمَالٍ حُبِّهِ وَرِضَاةٍ

تعداد اس کی مخلوقات کی ساتھ کمال محبت اور اس کی رضا کے

الَّذِي جَعَلَكَ اَكْرَمَ الْاَنْبِيَاءِ يَا خَيْرَ خَلْقٍ

جس نے بنایا آپ کو بزرگ تر نبیوں سے اے سب سے بہتر خلق

اللّٰهِ اَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِيْنَا خَدِيْنَا

خدا سے ، آپ ہمارے اور ہادی ہیں ، ہماری دستگیری فرمائیے

مِنَ الضَّلٰلَةِ تَهْدِيْنَا وَتُوْصِلُنَا اِلَىٰ سَرِيْنَا

گمراہی سے آپ ہمیں ہدایت دیتے اور پورے گمراہی سے نکالتے ہیں

بِحَقِّ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ الصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ

بحق انا اعطینک الکوثر ، درود و

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اِلٰهِ وَ

سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ ، اللہ اور

عِبَادِهِ بَعْدَ دِمَخْلُوْقَاتِهِ بِكَمَالٍ حُبِّهِ

اس کے بندوں کی طرف سے تعداد اس کی مخلوقات کی ساتھ کمال محبت

وَرِضَانِهِ الَّذِي جَعَلْتَ أَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ

اور اس کی رضا کے جس نے کیا آپ کو افضل نبیوں سے

يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِينَا

اے پسندیدہ اللہ کے آپ ہمارے اور ہادی ہیں

خُذْ بِيَدَيْنَا مِنَ الضَّلَالَةِ تَهْدِينًا وَتُوصِلْنَا

ہماری دستگیری فرمائیے، ضلالت سے آپ ہمیں ہدایت دیتے اور ملائیے

إِلَىٰ رَبِّنَا بِحَقِّ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

ہمارے پروردگار سے بحق لی مع اللہ وقت ، درود

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ

وسلام ہو آپ پر یا رسول اللہ اللہ اور اس کے

وَعِبَادِهِ بَعْدَ مَخْلُوقَاتِهِ بِكَمَالٍ حُبِّهِ وَ

بندوں کی طرف جتنی اس کی مخلوقات سے کمال محبت اور

رِضَانِهِ الَّذِي جَعَلْتَ سُلْطَانَ الْأَنْبِيَاءِ

اس کی رضا سے جس نے کیا ہے آپ کو بادشاہ نبیوں کا

يَا مَنْ كَرَّمَهُ اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِينَا

اے عزت پانویلے اللہ سے آپ ہمارے آقا اور ہادی ہیں

و خُذْ بِيَدَيْنَا مِنَ الضَّلَالَةِ تَهْدِينًا وَتُوصِلْنَا

ہماری دستگیری فرمائیے، گمراہی سے ہمیں ہدایت دیتے اور ملائیے

إِلَىٰ رَبِّنَا بِحَقِّ أَيُّكُمْ مِثْلِي أَنَا إِبْرَاهِيمُ عِنْدَ

ہمارے بحق ایچم مثلی انا ابراہیم عند

رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

رہی طعمنی و سقینی ، درود و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَعِبَادِهِ

آپ پر یا رسول اللہ اور اس کے بندوں کی طرف

بَعْدَ مَخْلُوقَاتِهِ بِكَمَالٍ حُبِّهِ وَرِضَاةٍ

ہے تعداد اس کی مخلوقات کی کمال محبت اور اس کی رضائے

الَّذِي جَعَلَكَ شَمْسَ الْاَنْبِيَاءِ يَا مَنْ

جس نے بنایا ہے آپ کو آفتاب انبیاء کا ، اے

فَضْلَهُ اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَانَا وَهَادِينَا خُذْ

فضیلت والے آپ ہمارے آقا اور ہادی ہیں دستگیری

بِيَدِي يَا مَنْ الصَّلَاةُ تَهْدِيَنَا وَتُوصِلُنَا إِلَىٰ

فرمائیے ہماری ، گمراہی سے آپ ہمیں ہدایت دیتے اور ہمارے رب سے

رَبِّنَا بِحَقِّ لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتَ الرَّبُّوبِيَّةَ

ملائے ہیں بحق لولاک لما اظہرت الربوبیۃ

يَا رَبِّ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ

اے رب بحق محمد مصطفیٰ انہر

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ

بہترین درود و سلام ہو تعداد ہر ذرہ کی

أَلْفَ أَلْفٍ مَرَّةٍ الَّذِي مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا

ہزارہ ہزار مرتبہ ، جن کی آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ

طَغَىٰ أَعْطَانِي لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَ

حد سے بڑھی ، عطا کر مجھے لذت اپنی ذات کی طرف اور

الشُّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي كُلِّ لَسْحَةٍ يَزِيدُ

شوق اپنے ملنے کا ہر لمحہ زائد ہوتا رہے اور

يَضَاعَفُ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ

بڑھتا رہے صرف تیرے فضل اور اس احسان کے

مَا عَلَىٰ الْمُسْطَفَىٰ يَا رَبِّ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو مصطفیٰ پر ہے اے رب بطفیل محمد

الْمُسْطَفَىٰ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

مصطفیٰ کے ، ان پر بہترین درود و سلام ہو

بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفٍ مَرَّةٍ الَّذِي

تعداد ہر ذرہ سے کی ہزار ہزار مرتبہ ، جس کے

مَا كَذَبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ

دل نے نہ جھٹلایا جو آپ نے دیکھا ، اور نہیں بولتے

الْهَوَىٰ أَعْطِنِي لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَ

خواہش سے، نصیب کر مجھے لذت اپنی ذات کی طرف نظر کی اور

الشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي كُلِّ لَمَحَةٍ يَزِيدُ

اپنی ملاقات کے شوق کی جو ہر لمحہ بڑھتی اور

وَيُضَاعَفُ بِسَحْوِ فَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ

کئی گنا ہوتی رہے صحت تیرے فضل اور احسان سے

مَا عَلَىٰ الْمُسْطَفَىٰ يَا رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ

جو مصطفیٰ پر ہے، اے پروردگار بخشش اور رحم فرما

الْفَقِيرَ الْوَجِلَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَيْسَ

فقیر خوفزدہ کمزور جس کا کوئی نہیں

لَهُ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُسْطَفَىٰ

سوائے تیرے بحق محمد مصطفیٰ کے

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِىَ لَا يَعْتَمِدُ

درود بھیجے اللہ اور سلام اے اللہ یہ بات میرا دل نہیں مانتا

قَلْبِي وَقَلْبُ عِبَادِكَ إِذَا سُئِلَ شَيْءٌ بِاسْمِ

اور نہ تیرے بندوں کا کہ جب تجھ سے سوال کیا جائے اسم

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي

محمد سے، ان پر درود و سلام ہو جیسا کہ لائق ہے

لِكَمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ عِبَادِكَ وَلَمْ تَعْطِهِ

ان کے تیرے اور تیرے تمام بندوں کے نزدیک ان کے مقام سے، اور نہ عطا کر

وَأَنْتَ قُلْتَ فِي شَانِهِ أَفْدَيْتَ مُلْكِي عَلَيْكَ

تو وہ چیز، اور تو نے ان کی شان میں فرمایا ہے بچھا اور کیا میں نے ملک اپنا آپ پر

يَا مُحَمَّدُ إِلَهِي قَائِي الْعَاصِي السُّذُنِبِ إِذَا

اے محمد، اے اللہ پس کیوں ایسا عاصی گنہگار ہے کہ جب تجھ سے

سَأَلْتُكَ غُفْرَانَكَ وَرِضَاكَ بِاسْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیری مغفرت اور رضا طلب کرے اسم گرامی محمد کے طفیل

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكَمَالِهِ

آپ پر درود و سلام ہو جیسا کہ لائق ہے آپ کے کمال سے

مِنْكَ وَجَمِيعِ عِبَادِكَ وَلَمْ تَغْفِرْهُ وَلَمْ تَرْضَ

جو تیرے اور تیرے بندوں کے نزدیک ہے، اور نہ بخشتے اسے اور نہ راضی ہو

عَنْهُ وَأَنْتَ قُلْتَ فِي شَانِهِ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ

اس سے حالانکہ تو نے ان کی شان میں فرمایا ہے عرش سے

إِلَى تَحْتِ الْأَرْضِينَ كَمَا يَطْلُبُونَ

زمین کے تخت تک تمام طلب کرتے ہیں

رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَهِي

میری رضا کو اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اے محمد! اے اللہ



فَإِنِّي الْوَلَايَةُ وَالْعِلْمُ وَالْعِرْفَانِ إِذَا سَأَلْتُكَ

پس کونسی ولایت اور علم اور عرفان ہے کہ جب سوال کیا

سَأَلْتُ طَالِبٌ بِاسْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

سائل نے جو طالب ہے ہاتھ نام گرامی محمد سے ، ان پر درود

وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكَمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ

وسلام ہو جیسے لائق ہے واسطے اس کے کمال کے تجھ سے اور تیرے تمام

عِبَادِكَ وَمَا وَهَبْتَهُ وَأَنْتَ قُلْتَ فِي شَأْنِهِ

بندوں سے ، اور تو نے اسے نہیں دیا حالانکہ تو نے اپنی شان میں فرمایا ہے

يَا سِرِّي وَيَا خَزَائِنَ مَعْرِفَتِي فَاسْأَلُكَ

اے میرے خاص بھید اور میری معرفت کے خزانے ، پس میں تجھ سے سوال

يَا اللَّهُ بِاسْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کرتا ہوں اے اللہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی

وَيَذَاتِهِ وَجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَبِكَمَالِ فَقْرِهِ

اور آپ کی ذات اور آپ کے تمام صفات اور کمال فقر کا

فَاعْطِنِي يَا اللَّهُ مَا أَسْأَلُكَ وَأَقْضِ حَاجَاتِي

عطا کر مجھے اے اللہ جو میں سوال کرتا ہوں اور میری تمام حاجتیں پوری

كُلِّهَا وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَ عَيْنٍ وَ

پوری فرما اور میری طرف سے بے توجہی نہ فرمائے ایک لمحہ کے لئے بھی اور

لَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ وَكَلَّأَنِي كَلَامَ مَوْلَايَ بِحَقِّ

نہ اس سے کم اور بیٹے کے نئے نئے نواز

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي

بے غیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ

إِذَا سَأَلَ مُحِبٌّ بِاسْمِ رَجِيْبٍ مُحِبًّا وَ لَهُ قُوَّةٌ

جب سوال کرے کوئی پیارا کسی پیارے سے پیار کے نام اور اسے دینے کی

إِعْطَاءٍ فَلْيُعْطِهِ فَحَسْبُكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وقت ہو تو وہ اسے دے گا، پس محمد، ان پر درود

وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكَمَا إِلَيْهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ

اور سلام ہو جیسے لائق ہے آپ کے کمال کے سبب جو تجھ سے اور تیرے تمام

عِبَادِكَ مُحِبِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ وَ

بندوں کے نزدیک ہے، تیرے محب اور محبوب اور رسول ہیں اور

وَاسْتَلْتُ بِاسْمِهِ فَأَعْطَنِي يَا اللَّهُ مَا أَسْأَلُكَ

اور میں سوال کرتا ہوں ان کے نام کے ساتھ پس دے مجھے اے اللہ جو میں تجھ سے سوال

وَاقْضِ حَاجَاتِي كُلَّهَا وَإِيْمَانًا دَائِمًا وَ

کرتا ہوں اور میری تمام حاجتیں پوری فرما اور ایمان دائمی اور

يَقِيْنًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یقین صادق کہ جس کے بعد کفر نہ ہو صدقہ محمد

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي أَنْتَ قُلْتَ بِمَحْضٍ

صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو نے محض

فَضْلِكَ وَأِحْسَانِكَ إِذَا سَأَلْتُكَ عِبَادِي

اپنے فضل و احسان سے فرمایا ہے جب آپ سے میرا بندہ میرے متعلق سوال

عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

کرے تو میں قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا، دعا کر نیوالے کی جب مجھ

دَعَانِ فَإِنِّي عَبْدُكَ الدَّاعِي الْآنَ إِلَيْكَ

سے دعا کرے، تو میں تیرا دعا کرنے والا بندہ ہوں اب تجھ سے

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ

دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

جن پر تو نے انعام کیا نہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا

وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور نہ گمراہوں کا، اے اللہ دعا قبول فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَقْرِهِ وَبِحَقِّ

بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فقر کے

صِدْقِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَفَنَائِهِ وَبِحَقِّ صَلَابَةِ

اور صدقہ ابو بکر کے صدق اور آپ کی فنا کا اور صلہ پختگی

سَيِّدِنَا عَمْرٍو وَرِضَاةً وَيُحِقُّ سَخَاوَةَ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ وَصَفَاءً وَ

عمر اور ان کی رضا کے اور صدقہ عثمان کی سخاوت اور صفا کا

يُحِقُّ شَجَاعَةَ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَعِلْمَهُ وَيُحِقُّ صَبْرَ سَيِّدِنَا

اور صدقہ علی کی بہادری اور علم کا اور صدقہ فاطمہ کے صبر

فَاطِمَةَ وَحُبَّهَا وَيُحِقُّ عِبَادَةَ سَيِّدِنَا الْحَسَنِ وَ

اور محبت کا اور صدقہ حسن کی عبادت اور

حَلِيمَهُ وَيُحِقُّ شَهَادَةَ سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ وَعُرْبِيَّتَهُ

بردباری اور صدقہ حسین کی شہادت اور مسافری کا

وَيُحِقُّ الْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرَةَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ

اور صدقہ بشارت دے گئے دس صحابہ کا اور باقی صحابہ

وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَالتَّابِعِينَ رِضْوَانُ

اور خلفائے راشدین اور تابعین کا رضا ہو اللہ

اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ

تعالیٰ کی ان سب پر، سوال کرتا ہوں میں تجھ سے کہ

تُعْطِيَنِي كَمَا لِحُبِّهِ إِلَى خُلُوصِ ذَاتِكَ وَ

دے تو مجھے کمال محبت ان تیری ذات کے خلوص سے اور

أَكْمَلَ الشُّوقِ السِّرِّيِّ إِلَى لِقَائِكَ دَائِمًا

کامل شوق پوشیدہ اپنی ملاقات کا ہمیشہ

أَبَدًا لَمْ يَقْطَعْ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِإِسْتِثْنَائِي

ابدی نہ رکنے والا اور یہ کہ بخشے تو مجھے اور میرے مرشد

وَلِإِسْتِثْنَائِي وَلِإِسْنِ تَوَالِدِ الْجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

اور استناذ اور جو اولاد ہے اور تمام مومنوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کو

الْحَيَّاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

جو زندہ ہیں ان سے اور جو وفات پا چکے اپنی رحمت سے اے بہت

الرَّحِيمِينَ

رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے۔

هَذِهِ الصَّلَاةُ لِلسَّيِّدِ الْكَبِيرِ الْوَفَاعِيِّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُوْرِكَ

اے اللہ درود و سلام اور برکت فرما اپنے نور اولین پر

الْأَسْبَقِ وَصِرَاطِكَ السُّحُقِّقِ مَنْ أَيْرَزْتَهُ

اور صراط تیرا اپنے ثابت پر جس کو تو نے ظاہر کیا

رَحْمَةً شَامِلَةً لَوْجُودِكَ وَأَكْرَمَتَهُ بِشَهُودِكَ

ہے رحمت جو شامل ہے، تیرے وجود کو، اور عزت دی تو نے اپنے شہود کی

وَأَصْطَفَيْتَهُ لِنُبُوتِكَ وَرِسَالَتِكَ وَأَرْسَلْتَهُ

اور چن لیا تو نے ان کو اپنی نبوت سے اور رسالت سے اور بھیجا تو نے انکو

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَيْكَ بِأَذْنِكَ وَسِرَاجًا

بشار دینے والا اور ڈرنا نبی والا اور بلانے والا تیری طرف تیرے اذن سے اور چراغ

مَنِيرًا نَقْطَةً مَرْكَزِيَّةً الدَّائِرَةِ الْأُولَى

روشن نقطہ مرکز بار دائرہ اولیہ کا

وَسِرًّا سُرَارِ الْأَلْفِ الْقُطْبِيَّةِ الَّذِي فَتَقَّتْ

اور بھید الف قطبیت کے بھیدوں کا جس نے کھول دیا

بِهِ وَتَقَّ الْوُجُودِ وَخَصَّصْتَهُ بِأَشْرَفِ

اس سے بندش وجود کی اور خاص کیا تو نے انکو بہترین

الْمَقَامَاتِ الْمَوْهَبِ الْإِمْتِنَانِ وَالْمَقَامِ

مقامات سے عطاءئے احسان اور مقام

الْمَرْحَمُودِ وَأَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ فِي كَلَامِكَ

محمود اور قسم ذکر کی تو نے آپ کی زندگی کی اپنی کلام میں

السُّهُودِ لِأَهْلِ الْكُشْفِ وَالسُّهُودِ فَهُوَ

جس کی گواہی دیتے ہیں اہل کشف اور شہود پس وہ

سِرِّكَ الْقَدِيمِ السَّارِي وَمَاءُ جَوْهَرِ

تیرے قدیم سہریت کرنے والے بھید ہیں اور پانی جو ہریت کے

الْجَوْهَرِيَّةِ الْجَارِي الَّذِي أَحْيَيْتَ بِهِ

جوہر کا جو جاری ہے جس سے زندہ کیا تو نے

السُّجُودَاتِ مِنْ مَّعْدِنٍ وَحَيَوَانٍ وَنَبَاتٍ

موجودات کو چاہے وہ معدنی ہوں ، حیوانی ہوں ، نباتی ہوں

فَهُوَ قَلْبُ الْقَلُوبِ وَرُوحُ الْأَرْوَاحِ وَعِلْمُ

پس وہ دلوں کے دل اور رُوحوں کی روح علامت ہیں

الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ الْقَلَمِ الْأَعْلَى وَالْعَرْشِ

کلمات طیبات کی قلم اعلیٰ اور عرش

الْمَرْحِيطِ رُوحِ جَسَدِ الْكُونِينِ وَبِرْزَخِ الْيَمِينِ

مُحِيطِ رُوحِ كُونِينِ كَيْ جَسْمِ كِي اَوْر بَرْزَخِ دُونُوں سَمْنَدِ كِي

وَتَانِي اثْنَيْنِ وَفَخْرَ الْكُونِينِ أَبُو الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا

اَوْر دُوں كَا دُوسْرَا اَوْر فِخْرِ كُونِينِ كِي اَو الْقَاسِمِ سِرْدَارِ هَمَارِي

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ

مُحْمَدُ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ

عَبْدُكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى

تیرے بندے اور نبی اور رسول نبی امی اور آپ کی

إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بِقَدْرِ عَظَمَتِهِ

آل اور صحابہ پر اور سلام ہو بقدر تیری ذات کی

ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ سُبْحَانَ

عظمت کے ہر وقت اور ان میں پاکی ہے تیرے

رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى

رب ، رب العزت کی اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سب رسولوں پر اور سب تعریف واسطے کے جو پالنے والے جہانوں کا ہے



# هَذِهِ الصَّلَاةُ النَّامِيَةُ

من تصنیف

قطبِ زمانِ جناب حضرت مولانا فخر الدین  
فخر جہاں پشی دہلوی قدس سرہ العزیز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد

وَالِیْہِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اور ان کی آل پر اور سلام، اے اللہ درود و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ

سردار ہمارے محمد اور انکی آل پر جیسے تیرے کمال کی

لِكَمَا لَكَ وَعَدَدِ كَمَا لَكَ اللَّهُمَّ

انتہا نہیں اور تیرے کمال کے شمار کی انتہا نہیں اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ

درد و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور ان کی آل پر

كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِكَمَا لَكَ وَعَدَدِ

جیسے تیرے کمال اور شمار کمال کی انتہا نہیں

كَمَا لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اے اللہ درد و سلام بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ

سردار محمد اور ان کی آل پر جیسے تیری ہمار

لِيَهَاتِكَ وَعَدَدِ يَهَاتِكَ اللَّهُمَّ

اور تعداد ہمار کی انتہا نہیں اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

درد و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور انکی

وَإِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِيَهَاتِكَ وَعَدَدِ يَهَاتِكَ

آل پر جیسے اسکی ہمار اور تعداد ہمار کی نہایت نہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج اوپر ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَابَةَ لِحْجَمَاتِكَ وَعَدَدِ جَمَالِكَ

آپنی آل کے جیسے تیرے جمال کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَابَةَ لِحْجَمَاتِهِ وَعَدَدِ جَمَالِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کے جمال کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَابَةَ لِحِجَلَاتِكَ وَعَدَدِ جَلَالِكَ

آپنی آل پر جیسے تیرے جلال کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَابَةَ لِحِجَلَاتِهِ وَعَدَدِ جَلَالِهِ

انکی آل پر جیسے ان کے جلال کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِصِفَاتِكَ وَعَدَدِ صِفَاتِكَ

انہی آل پر جیسے کہ تیری صفات کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِصِفَاتِهِ وَعَدَدِ صِفَاتِهِ

انہی آل پر جیسے ان کی صفات کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِأَسْمَائِكَ وَعَدَدِ أَسْمَائِكَ

ان کی آل پر جیسے تیرے اسماء کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِأَسْمَائِهِ وَعَدَدِ أَسْمَائِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کے اسماء کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِحُسْنِكَ وَعَدَدِ حُسْنِكَ

ان کی آل پر جیسے تیرے حسن کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَانِهَايَةَ لِحُسَيْنٍ وَعَدَدِ حُسَيْنِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کے حسن کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَانِهَايَةَ لِعُلُوكَ وَعَدَدِ عُلُوكَ

ان کی آل پر جیسے تیری بلندی کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَانِهَايَةَ لِعُلُوكَ وَعَدَدِ عُلُوكَ

ان کی آل پر جیسے ان کی بلندی کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَانِهَايَةَ لِنِعْظِيمِكَ وَعَدَدِ نِعْظِيمِكَ

ان کی آل پر جیسے تیری تعظیم کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِتَعْظِيمِهِ وَعَدَدِ تَعْظِيمِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کی تعظیم کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِعِزَّتِكَ وَعَدَدِ عِزَّتِكَ

ان کی آل پر جیسے تیری عزت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِعِزَّتِهِ وَعَدَدِ عِزَّتِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کی عزت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِإِحْسَانِكَ وَعَدَدِ إِحْسَانِكَ

ان کی آل پر جیسے تیرے احسان کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِإِحْسَانِهِ وَعَدَدِ إِحْسَانِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کے احسان کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِرَحْمَتِكَ وَعَدَدِ رَحْمَتِكَ

ان کی آل پر جیسے تیری رحمت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِرَحْمَتِكَ وَعَدَدِ رَحْمَتِكَ

ان کی آل پر جیسے ان کی رحمت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِرَجْوَدِكَ وَعَدَدِ رَجْوَدِكَ

ان کی آل پر جیسے تیرا سخاوت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِرَجْوَدِكَ وَعَدَدِ رَجْوَدِكَ

ان کی آل پر جیسے ان کی سخاوت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعَفْوِكَ وَعَدَدِ عَفْوِكَ

ان کی آل پر جیسے تیرے عفو کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعَفْوِهِ وَعَدَدِ عَفْوِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کے عفو کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِشَفَاعَتِكَ وَعَدَدِ شَفَاعَتِكَ

ان کی آل پر جیسے تیری شفاعت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِشَفَاعَتِهِ وَعَدَدِ شَفَاعَتِهِ

ان کی آل پر جیسے تیری شفاعت کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِلْمِكَ وَعَدَدِ مَا أَحَاطَ

ان کی آل پر جیسے تیرے علم اور معلومات کی انتہا اور



يَا عَلِيَّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

شمار نہیں ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِلْمِهِ وَعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ

ان کی آل پر جیسے ان کے علم اور معلومات کی انتہا اور شمار نہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِلْمِكَ وَعَدَدِ حِكْمِكَ

ان کی آل پر جیسے تیرے علم کی انتہا اور شمار نہیں ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِلْمِهِ وَعَدَدِ حِلْمِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کی بردباری کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِمَحَبَّتِكَ وَعَدَدِ حُبِّكَ لِرِضَاكَ

ان کی آل پر جیسے تیرے تیری رضا کیلئے، کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور ان کی آل پر

كَمَا لَا نَهَايَةَ لِمَحَبَّتِهِ وَعَدَدِ مَحَبَّتِهِ لِرِضَاةِ

جیسے ان کی رضا کی خاطر ان کے دوستوں کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد <sup>اول</sup>

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِرِشَادِكَ وَعَدَدِ رِشَادِكَ

ان کی آل پر جیسے تیری رہنمائی کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد <sup>اول</sup>

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِرِشَادِهِ وَعَدَدِ رِشَادِهِ

ان کی آل پر جیسے ان کی رہنمائی کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد <sup>اول</sup>

إِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِاسْتِمْرَارِ وَجُودِكَ وَعَدَدِ

ان کی آل پر جیسے تیرے وجود کی ہمیشگی کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اسْتِمْرَارِ وَجُودِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اے اللہ درود و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِمَوْلَانَا

ہمارے سردار محمد اور ان کی آل پر جیسے تیرے ملک کی ہمیشگی

مُلْكِكَ وَعَدَدِ يَوْمَةٍ مُلْكِكَ اللَّهُمَّ

کی انتہا اور شمار نہیں ہے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا

درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور ان کی آل پر جیسے

لَا نِهَائِيَةً لِدَوَامِ مَدَّتِكَ وَعَدَدِ دَوَامِ مَدَّتِكَ

تیری مدت کے دوام کی انتہا اور شمار نہیں ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور

آلِهِ كَمَا لَا نِهَائِيَةً لِبِقَاءِ حَيَاتِكَ وَعَدَدِ بِقَاءِ

ان کی آل پر جیسے تیری حیات کے بقا کی انتہا اور شمار

حَيَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نہیں ہے، اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا لَا نِهَائِيَةً لِدِكْرِكَ وَعَدَدِ

محمد اور ان کی آل پر جیسے تیرے ذکر کی انتہا اور شمار نہیں

ذِكْرِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤْتِي نِعْمَةً

ہے سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو اس کی نعمتوں کے موافق ہے

وَيَكْفِي مَزِيدًا عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادًا

اور کافی ہے اس کے مزید کو تعداد تیری معلومات کے اور سیاہی تیری

كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ

کلمات کے جب تک تیرا ذکر کرنے والے ذکر کریں اور غافل

عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

تیرے ذکر سے غافل رہیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا

إِيمَانًا دَائِمًا وَإِسْلَامًا بَاقِيًا وَإِحْسَانًا

ہوں ایمان دائمی اور اسلام باقی اور احسان

مُسْتَمِرًّا وَالْجَوَارِحَ مَحْفُوظَةً وَالسُّلُوكَ

جاری کا اور اعنار کی سلامتی کا اور چینے کا تیرے

عَلَى طَرِيقِكَ وَعَمَلًا مَقْبُولًا وَقَلْبًا خَاشِعًا

راستے کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور ڈرنے والے دل کا

وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَعَيْنًا دَامِعًا وَخَدًّا سَرَّطَبًا

اور زبان ذکر کرنے والی کا اور آنکھ رونے والی کا اور تیری محبت میں تر

فِي حُبِّكَ وَحُبِّ حَبِيبِكَ وَالْوُقُوفَ عَلَى

رخسارے کا اور تیرے محبوب کی محبت میں اور واقف ہونے کا تیری

حُدُودِكَ وَالتَّوْفِيقَ لِطَاعَتِكَ وَالنَّجَاةَ

حدود پر اور تیری عبادت پر توفیق کا اور نجات کا

مِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنَ فِتْنَةِ

زندگی اور موت کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے

الْقَبْرِ وَسْوَآلِهِ وَالسَّلَامَةَ فِي الدُّنْيَا

اور اس کے سوال کا اور دین و دنیا اور آخرت میں

وَالْآخِرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ

سلاہتی کا . اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ

تُحَاسِبَنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَأَنْ تُعْطِيَنِي

حساب لے تو میرا آسانی سے اور دے میرا

كِتَابِي بِيَمِينِي وَأَنْ تُبَيِّضَ وَجْهِي وَأَنْ

اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں اور میرا چہرہ روشن کر اور اپنے

تُرْجِعَ مِيزَانِي بِفَضْلِكَ وَأَنْ تُحْشِرَنِي

فضل سے میری میزان میں اضافہ فرما اور میرا حشر فرما

فِي زُمَرَةٍ حَبِيبَةٍ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَخَاصَّتِهِ

اپنے حبیب کی جماعت میں ان کے جھنڈے کے نیچے ان کے خواص میں

وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِ

اور داخل فرما مجھے جنت میں اپنی شفاعت سے ان کے

مَحَبَّتِهِ وَأَوْلِيَآئِهِ وَأَخِصَّآئِهِ

محبت کرنے والوں اور دوستوں اور خواص کے ساتھ

بِرِضَاكَ وَرِضَاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ

اپنی رضا اور ان کی رضا سے، درود بھیجے اللہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

ہمارے سردار محمد اور ان کی اور صحابہ

أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

سب پر اے ہمارے پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بے شک تو ہی سنے جاننے والا ہے۔

# دُعَاةٓ مُؤْمِنٍ اَوَّلِيهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے

اَللّٰهُمَّ يَا مُؤْمِنِي فِي وَحْدَتِي وَيَا صَاحِبِي فِي

اے اللہ اے میری تنہائی میں میرے ساتھی اور اے میری تکلیف میں

شِدَّتِي وَيَا عَظِيْمَ الْخَطْرِ وَيَا اِلَهَ الْبَشَرِ وَ

میرے صاحب، اور اے عظیم مرتبے والے اور اے انسانوں کے معبود اور

يَا لَطِيْفٌ يَا اَللّٰهُ اَدْرِ كُنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيّ وَيَا

اے مہربان اے اللہ مجھے اپنے پوشیدہ لطف سے نوازے اور اے

جَابِرِ كُلِّ كَسِيْبٍ وَيَا مُؤْمِنِسَ كُلِّ وَجِيْدٍ وَيَا صَاحِبَ

ہر ٹوٹے دل کے سہارے اور اے ہر ایک کے غمخوار اور اے ہر غریب

كُلِّ غَرِيْبٍ وَيَا مُنِيْبِرَ كُلِّ عَسِيْرٍ وَيَا كَيِّدَ

کے مددگار اور اے ہر مشکل والے کی مشکل دور کرنے والے اور اے ہر بڑے

كُلِّ كَيِّدٍ وَيَا مَنْ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَا وِزِيْرَ لَهٗ

سے بڑے اور اے وہ کہ جس کا کوئی شریک نہیں اور نہ وزیر

وَخَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ السَّيْرِ وَيَا عَصِيَّةَ

اور اسے پیدا کرنے والے سورج اور روشن چاند اور اسے بچا کر لینے والے

الْحَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ وَيَا مَغْنَى الْبَائِسِ الْفَقِيرِ

خوفزدہ پناہ مانگنے والے کے، اور اسے غنی کرنے والے بے امید محتاج کے

وَيَا جَابِرَ الْعَظِيمِ الْكَبِيرِ وَيَا رَاحِمَ الشَّيْخِ

اور اسے غالب عظیم کبیر پر اور اسے رحم کرنے والے شیخ

الْكَبِيرِ وَالطِّفْلِ الصَّغِيرِ وَيَا قَاهِرَ كُلِّ

بڑے اور چھوٹے بچے کے اور اسے قہر والے ہر

جَبَّارٍ عَنِيدٍ سَبْحَانَ مَنْ هُوَ بَاقٍ سَبْحَانَ

ظالم سرکش پرستہ پاک ہے باقی رہنے والا، پاک ہے

مَنْ لَا يَفْنَى أَبَدًا نَوْرًا، سَبْحَانَ مَنْ

جس کا نور کبھی فنا نہیں ہوگا، پاک ہے وہ جس کے

أَشْرَقَ كُلَّ ظُلْمَةٍ لِضَوْوِ نَوْرِهِ، سَبْحَانَ مَنْ

نور کی روشنی سے ہر تاریکی شے روشن ہو گئی، پاک ہے جو

يَدَّانُ لِدَايِنِهِ وَلَا يَدَّانُ لِعَايِرِهِ، سَبْحَانَ

بدلہ دیتا ہے اطاعت اور اس کا غیر بدلہ نہیں سکتا، پاک ہے

مَنْ لَمْ يَقِدِّ بِقُدْرَتِهِ أَحَدًا، سَبْحَانَ مَنْ

جس کی قدرت کا کوئی قیدی نہیں، پاک ہے وہ



أَوَّلُهُ عِلْمٌ وَأَخِرُهُ حِلْمٌ، سُبْحَانَ مَنْ

جس اول علم ہے اور آخر اس کا علم ، پاک ہے جس کا اول

لَا أَوَّلَ لَهُ وَلَا آخِرَ لَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَبِيدُ

نہیں ہے اور نہ آخر . پاک ہے

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ خَلِيمٌ لَا يَعْجَلُ سُبْحَانَ

پاک ہے جو علیم ہے جلدی نہیں فرماتا ، پاک ہے

مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لَا يَغْفُلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ

جو حفاظت فرماتا ہے، غافل نہیں ہے، پاک ہے جو

جَوَادٌ لَا يَبْخُلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ

سچی ہے بخل نہیں فرماتا ، پاک ہے جو قائم رہنے والا ہے

لَمْ يَزَلْ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ الرَّفِيعُ الْأَعْلَى

پیشہ رہے گا، پاک ہے رفعت والا ، بلند

سُبْحَانَ الْجَوَادِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ

پاک ہے سخی کرم کرنے والا ، پاک ہے پیدا فرمانے والا

الْوَارِثِ، سُبْحَانَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ يَا رَبِّ

وارث سب کا، پاک ہے مہربان رحم والا اس کے پروردگار

يَا رَبِّ اسْتَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ أَنْفِي

تو میں یا رب سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ کر دے تو مجھے جس میں میں مبتلا ہوں

فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَهَيْئِي لِي مِنْ أَمْرِي

خوش اور آزاد اور کر میرے کام کو میرے لئے

رُشْدًا يَا شَاهِدُ غَيْرَ غَائِبٍ يَا قَرِيبُ

درست اے حاضر نہ کہ غائب اے قریب

غَيْرِ بَعِيدٍ يَا مَغِيثَ اغْنِنِي (سہ بار)

نہ کہ بعید اے فریاد رس میری مدد فرما تین بار

يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالْخَفِيَّاتِ وَيَا كَاشِفَ

اے جاننے والے بھید اور پوشیدہ چیزوں کے، اور اے دور کرنے والے

الضَّرِّ وَالْبَلِيَّاتِ وَيَا غَافِرَ الذَّنْبِ

ضر اور بلاؤں کے اور اے بخشنے والے گناہ

وَالْخَطِيئَةِ إِسْرَحْمَنِي (سہ بار) وَأَعْفِرْ

اور خطاؤں کے مجھ پر رحم فرما تین بار اور بخش

لِي الذَّنْبِ وَالْخَطِيئَةَ يَا اللَّهُ (سہ بار)

میرے گناہ اور خطا کو اے اللہ تین بار

يَا رَحْمَنُ (سہ بار) يَا رَحِيمُ (سہ بار)

اے بہت مہربان تین بار اے رحم کرنے والے تین بار

يَا كَرِيمُ (سہ بار) يَا ذَا الْجَلَالِ وَ

اے سخی تین بار اے عظمت اور

الذِّكْرَامِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرِ خَلْقِهِ

بزرگی والے اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہترین

وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ

اور اپنے عرش کے نور ہمارے سردار محمد اور ان کی آل اور

أَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ

سب صحابہ پاک صاف پر ،

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ

اور سلام بھیجے بہت بہت اپنی رحمت سے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے بہت مہربان، مہربانوں سے

# وعائے کیمیائے سعادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَنَا الْعَبْدُ فَمَنْ

اے اللہ تو پروردگار ہے اور میں بندہ ہوں پس کس کو

يَدْعُ الْعَبْدُ اِلَّا الرَّبَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ

بلاتا ہے بندہ رب کے سوا اے رب اے اللہ

اَنْتَ الْخَالِقُ وَاَنَا الْمَخْلُوْقُ فَمَنْ يَدْعُ

تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں پس کس کو

الْمَخْلُوْقُ اِلَّا الْخَالِقُ، يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ

بلاتے مخلوق خالق کے سوا اے رب اے اللہ

اَنْتَ الْمَالِكُ وَاَنَا الْمَمْلُوْكُ فَمَنْ يَدْعُ

تو مالک ہے اور میں مملوک پس کس کو

الْمَمْلُوْكُ اِلَّا الْمَالِكُ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ

بلاتے مملوک مالک کے سوا اے رب اے اللہ

أَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا الْفَقِيرُ فَمِنْ يَدَعُ

تو غنی اور میں محتاج ہوں پس کس کو

الْفَقِيرُ إِلَّا الْغَنِيَّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے محتاج، غنی کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ فَمِنْ يَدَعُ

تو طاقت والا اور میں کمزور ہوں پس کس کو

الضَّعِيفُ إِلَّا الْقَوِيَّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے محتاج، طاقتور کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْقَيُّومُ وَأَنَا الزَّائِلُ فَمِنْ يَدَعُ

تو قائم اور میں زائل ہوں پس کس کو

الزَّائِلُ إِلَّا الْقَيُّومَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے زائل، قائم کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْعَفْوُ وَأَنَا الْمُسِيئُ فَمِنْ يَدَعُ

تو معاف کرنے والا اور میں گنہگار ہوں پس کس کو

الْمُسِيئُ إِلَّا الْعَفْوَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے گنہگار، معاف کرنے والے کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا الْمَذْنِبُ فَمِنْ يَدَعُ

تو بخشنے والا اور میں گنہگار ہوں پس کس کو

الْمُذْنِبِ إِلَّا الْغَفُورَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے گناہگار بخشنے والے کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الرَّحِيمُ وَأَنَا الْخَاطِئُ فَمَنْ يَدْعُ

تو رجم کر نوالا ہے اور میں خطا کار ہیں کس کو

الْخَاطِئُ إِلَّا الرَّحِيمَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے خطا کار رحیم کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْمَغِيثُ وَأَنَا الْمَسْتَغِيثُ فَمَنْ يَدْعُ

تو فریاد سننے والا ہے اور میں فریاد کرنے والا ہیں کس کو

الْمَسْتَغِيثُ إِلَّا الْمَغِيثُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے فریادی، فریاد سننے والے کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْمَرْجُوبُ وَأَنَا الدَّاعِي فَمَنْ يَدْعُ

تو دعا قبول کر نوالا ہے اور میں دعا کر نوالا ہیں کس کو

الدَّاعِي إِلَّا الْمَرْجُوبَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے داعی، دعا قبول کر نوالے کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ السَّجِيرُ وَأَنَا الْمُسْتَجِيرُ فَمَنْ تَدْعُ

تو دستگیر ہے اور میں پناہ ڈھونڈنے والا ہیں کس کو

الْمُسْتَجِيرَ إِلَّا السَّجِيرَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے پناہ ڈھونڈنے والا، دستگیر کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ فَمَنْ يَدَعُ

تو عزت والا ہے اور میں ذلیل اور میں ذلیل پس کس کو

الذَّلِيلُ إِلَّا الْعَزِيزُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے ذلیل عزت والے کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْمُعْطَى وَأَنَا السَّائِلُ فَمَنْ يَدَعُ

تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل پس کس کو

السَّائِلُ إِلَّا الْمُعْطَى يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے سائل عطا کرنے والے کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْوَهَّابُ وَأَنَا الْبَائِسُ فَمَنْ يَدَعُ

تو بانٹنے والا ہے اور میں بے سرو سامان پس کس کو

الْبَائِسُ إِلَّا الْوَهَّابُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے بے سرو سامان بانٹنے والے کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْمَفْرُجُ وَأَنَا الْمَغْمُومُ فَمَنْ يَدَعُ

تو غمخوار ہے اور میں غمزوہ پس کس کو

الْمَغْمُومُ إِلَّا الْمَفْرُجُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

پکارے غمزوہ، غمخوار کے سوا اے میرے رب اے اللہ

أَنْتَ الْمُنْجِي وَأَنَا الْغَرِيقُ فَمَنْ يَدَعُ

تو نجات دینے والا ہے اور میں غرق پس کس کو

الْغَرِيقُ إِلَّا الْمُنْجِي يَا رَبِّ اللَّهُمَّ	غرق شدہ کو سوائے نجات دینے والے کے اے میرے رب	اے اللہ
أَنْتَ الرَّازِقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ فَمَنْ يَدْعُ	تو رازق ہے اور میں رزق پانے والا	پس کس کو
الْمَرْزُوقِ إِلَّا الرَّازِقَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ	پکارے رزق پانے والا سوائے رازق کے اے میرے رب	اے اللہ
أَنْتَ الْغَفَّارُ وَأَنَا الْمَتَضَرِّعُ فَمَنْ يَدْعُ	تو غفار ہے اور میں زاری کرنے والا	پس کس کو
الْمَتَضَرِّعِ إِلَّا الْغَفَّارَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ	پکارنے والی کرنے والا غفار کے سوا اے رب	اے اللہ
أَنْتَ الْكَاشِفُ وَأَنَا الْمُضْطَرُّ فَمَنْ يَدْعُ	تو مصائب دور کرتا ہے اور میں الم زدہ	پس کس کو
الْمُضْطَرِّ إِلَّا الْكَاشِفَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ	پکارے الم زدہ سوائے کاشف کے اے میرے رب	اے اللہ
أَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْمُبْتَهِلُ فَمَنْ يَدْعُ	تو سردار ہے اور میں عاجز	پس کس کو
الْمُبْتَهِلِ إِلَّا السَّيِّدَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ	پکارے عاجز، سردار کے سوا اے میرے رب	اے اللہ



أَنْتَ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ فَاغْفِرْ ذُنُوبِي وَ

تو میرا سرور اور آقا ہے پس بخش دے میرے گناہ اور

أَعْتَقْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

آزاد کر دے مجھے آگ سے اپنی رحمت سے، اے بہت رحم والے

الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرَ

رحم کرنے والوں سے اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے

خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہترین اور اپنے عرش کے نور سرور ہمارے محمد

وَالِهِ أَجْمَعِينَ

اور ان کی آل سب پر۔

اِعْتَصَمَ وَعَاثَ حَيْدَرِي

يَا فَتَّاحُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ فِرًّا وَّالِیًّا اللّٰهُ وَ

اللہ کے احکام کو میں نے مضبوطی سے پکڑا، پس دوڑو اللہ کی طرف اور

تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ

بھروسہ کیا میں نے اللہ پر اور نہیں ہے کوئی مدد حقیقتہً مگر اللہ کی

اللّٰهِ وَمَا تَوْفِیْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ

طرف سے، نہیں تو فیق مجھے اللہ کے سوا کسی سے، اللہ مجھے کافی ہے

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ تَحَصَّنْتُ

جو اللہ چاہے، اللہ کے سوا کسی کو طاقت نہیں، پناہ لی میں نے

بِذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَاعْتَصَمْتُ

بادشاہی اور سلطنت والے سے اور مضبوط پکڑ میں نے امر

بِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى

عزت اور عظمت و جلال والے اور بھروسہ کیا میں نے

الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَسُوتُ ۗ دَخَلْتُ

اوپر اس زندہ کے جو نہ سوتا ہے اور نہ اسے موت آئے، داخل ہوا میں

فِي حِرْزِ اللَّهِ وَفِي أَمَانِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ

اللہ کی پناہ اور اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت میں

مِن شَرِّ الْبَرِيَّةِ أَجْمَعِينَ ۗ بِحَقِّ

تمام مخلوقات کے شر سے بوسیدہ

كَهَيْعِصٍ وَيَبْحِقُّ حَمِيعِصٍ وَأَحْوَلِ

کسیص اور بوسیدہ جمعصق اور نہیں کسی طرف

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۗ

پھرنا اور نہ کوئی مگر اللہ عظمت والے سے۔

# دعائے رجال الغیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِجَالَ الْغَيْبِ وَيَا أَيُّهَا الرُّوحُ

سلام ہو تم پر اے مردان غیب اور اے پاکیزہ

السُّقَّةِ ائْتِيْتُونِي بِغَوْثَةٍ وَاَنْظُرُونِي

ارواح مدد کیجئے میری ساتھ فریاد رسی کے اور میری نگہبانی کیجئے

بِنَظْرَةٍ يَا رُقَبَاءُ وَيَا نِقَبَاءُ وَيَا نَجَبَاءُ وَيَا

حفاظت سے اے محافظو اور اے نگرانو اور اے بزرگو اور اے

لے رجال الغیب کی متیں معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل شعبہ اور جدول دیکھئے شعر میں معنی

کے دنوں کے حساب سے سمتیں دی گئی ہیں اور جدول میں مہینہ کی تاریخوں کے حساب سے

در شرق شنبہ و شنبہ جمعہ یکشنبہ غروب

سہ چہارم و شمال و پنج شنبہ در جنوب

۲۵ تاریخ وار جدول سات رجال الغیب :-

جنوب مغرب ۲۵، ۱۶، ۱۰، ۲

جنوب مشرق ۲۴، ۱۶، ۹، ۱

مغرب ۲۶، ۹، ۱۲، ۳

جنوب ۲۶، ۱۸، ۱۱، ۳

شمال مشرق ۲۸، ۲۱، ۶

شمال مغرب ۲۰، ۱۳، ۵

شمال ۳۰، ۲۳، ۱۵، ۸

مشرق ۲۹، ۲۲، ۱۴، ۷

أَبْدَالُ وَيَا أَوْتَادُ وَيَا غَوِثُ وَيَا قُطْبُ

ابدال اور اے اوتاد اور اے غوث اور اے قطب

أَعِينُونِي فِي هَذَا الْأَمْرِ سَلِّمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى

میری فریادرسی کرو اس امر میں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تم کو

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

دنیا اور آخرت میں بحق سردار ہمارے محمد اور انکی آل پر

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

اور ان کے صحابہ سب پر اپنی رحمت سے اے بڑے رحم والے

الرَّاحِمِينَ ۝

رحم کرنیوالوں سے۔

## دعا جبریل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اللَّهُمَّ بِحَقِّ سَيِّدِنَا جِبْرَائِيلَ وَسَيِّدِنَا

اے اللہ بحق ہمارے سردار جبرائیل اور ہمارے سردار

مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا

میکائیل اور ہمارے سردار اسرافیل اور ہمارے سردار

عِزْرَائِيلَ وَبِحَقِّ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

عزرائیل کے اور بحق اس کے کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی

إِلَٰهُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

معبود نہیں ہے تمام غیبی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے وہ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُ أَجِبُ دَعْوَتِي وَاقْضِ

بخشنے والا مہربان ہے ، میری دعا قبول فرما اور میری حاجت

حَاجَتِي يَا إِلَهِي مَنْ أَرَادَنَا بِسُوءٍ فَرُدَّهُ

پوری فرما ، اے میرے اللہ جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا ہے اسے وکرو

وَمَنْ كَادَنَا بِكَيْدٍ فِكَدْهُ وَمَنْ دَعَا عَلَيْنَا

اور جو سوچ کرے ہم سے تو ان کے ٹکر کا جواب دے اور جو بددعا کرے ہم پر

فَاهْلِكْهُ ۗ وَاحْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا

تو اسے ہلاک کر ، اور حفاظت کر ہماری سامنے سے

وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ

اور ہمارے پیچھے سے اور ہمایے دائیں سے اور

شَمَائِلِنَا مِنْ جَمِيعِ بَلِيَّاتِ السَّمَوَاتِ

ہمارے بائیں سے ساتوں آسمانوں اور

السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ بِحَقِّ

زمین اور جو ان میں ہے، سب کی نصیبتوں سے بحق

إِهْيَا أَشْرَاهِيَا أَذُوْنِي أَصْبَاوُتُ ۗ

ذات ہی و قیوم آذونی بوسیدہ خالق

تَقْبِلْ دَعَائِنَا بِكُلِّ مَا دَعَوْتُ بِحَقِّ

قبول کر ہماری دعا جس چیز کی میں دعا کروں بوسیدہ

أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ وَافْتَحْ

دعا کرو مجھ سے میں تمہاری دعا قبول کرونگا اور کھول دے

مَغَايِبِنَا بِمَفَاتِيحِ الْغَيْبِ بِحَقِّ

تمام مغیبات ہمارے غیب کی کنجیوں سے بوسیدہ

لَا يَغْلِبُهَا إِلَّا هُوَ وَكَشِفَ ضُرًّا

بوسید اس کے کہ ان کو اس کے سوا کوئی اور دور کر مصیبت ہماری

بِحَقِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَبِحَقِّ

بجق پس کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اس کے سوا اور بوسیدہ

النَّصْرَ طه يس ن والقلم

النَّصْرَ طه يس ن والقلم

وَمَا يَسْطُرُونَ هـ

وما يسطرون



## دعائے استجاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور بڑا رحم والا ہے

يَا مُفْتِحَ الْاَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ

اے سب دروازے کھولنے والے اور اے تمام اسباب پیدا کرنے والے

وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْاَبْصَارِ وَيَا غِيَاثَ

اور اے پھرنے والے دلوں اور بینائی کے اور اے فریادرس

الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحِيرِينَ وَ

فریاد کرنے والوں کے اور اے دلیل حیران ہونیوالوں کے اور

يَا مُفْرِجَ الْاَحْزَانِ اَعْنِنِي اَعْنِنِي

اے خوش کرنے والے غمگینوں کے میری امداد فرما، امداد فرما، امداد فرما

تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّي وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ

بھروسہ کیا میں نے تجھ پر اے میرے رب اور سپرد کر دیا تیرے

أَمْرِي يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ

اے رب اے رب اے رب اے رب اے رب اے کھولنے والے

يَا رِزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا كَرِيمُ

اے رزق دینے والے اے کھولنے والے اے سخی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرباں نہایت رحم والا ہے

يَا اللّٰهُ الْمَحْسُوْدُ فِيْ كُلِّ فِعَالٍ هَ يَا اللّٰهُ

اے اللہ کہ تعریف کیا گیا ہے اپنے تمام کاموں میں اے اللہ

دردِ خم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا رحمن رحیم ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درد بھیج ہمارے سردار محمد پر

يَعْدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی

جتنے لوگ آپ پر دُود بھیجتے ہیں اور درد بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَعْدَدِ مَنْ لَمْ يَصِلْ

ہمارے سردار محمد پر اتنی تعداد میں کہ لوگ آپ پر درد نہیں

عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھیجتے اور درد بھیج ہمارے سردار محمد پر

كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ

جتنا تمہیں پسند ہے اور تو راضی ہے کہ آپ پر درد بھیجا جائے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اور درود بھیج ہمارے سردار محمد پر جیسے

يَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى

لا لائق ہے درود پڑھنا آپ پر اور درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا

ہمارے سردار محمد پر جیسے تو نے ہمیں حکم دیا

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

آپ پر درود پڑھنے کا

# دعاۓ حمیدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الْجَلِیْلِ الْجَبَّارِ الْقَاهِرِ الْقَهَّارِ

اللہ کے نام کے ساتھ جو بزرگ صاحب جبر قہر والا غالب ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ درود بھیج سردار ہمارے محمد پر کہ سید

الْقَاهِرِيْنَ عَلٰی اَعْدَائِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

القاہریں ہیں رب العالمین کے دشمنوں پر

يٰحَيِّدُ يٰحَيِّدُ يٰحَيِّدُ رِيًّا يٰاَبَاتُرَابٍ يٰاَعْلٰی

اے حیدر اے حیدر اے حیدر اے ابو تراب اے اعلیٰ

يٰاَسَدَ اللّٰهِ يٰاَوْلٰی اللّٰهِ يٰاِرْحٰمَ اللّٰهِ يٰاَمْقَبُوْلَ

اے اللہ کے شیر اے اللہ کے دوست اے مردان خدا اے اللہ کے

اللّٰهِ يٰاَحْبُوْبَ اللّٰهِ يٰاَظْهُوْرَ اللّٰهِ يٰاَمْظَهْرَ

مقبول اے اللہ کے محبوب اے اللہ کے ظہور اے مظہر

الْعَجَائِبِ يٰالقَهْرَةَ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْتَ صِرُّ

عجائبات کے قہر سے میں مغلوب ہوں امداد فرمائیے

۱۔ بار بخواند، یٰحَقُّ یٰحَقُّ یٰحَقُّ

تین بار پڑھے اے حق اے حق اے حق

تَحَقَّقْتَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ فِي حَقِّ حَقِّكَ يٰحَقُّ

تو حق کے ساتھ ثابت ہے اور حق قائم ہے تیرے حق ہونیکے حق میں اے حق

یٰفَتَّاحُ یٰفَتَّاحُ یٰفَتَّاحُ یٰقَادِرُ یٰحَسْبُ یٰقِیُّومُ

اے فتاح اے فتاح اے فتاح اے قادر اے زندہ اے قائم

یَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَحْوَلُ وَاَقْوَىٰ اَللّٰهُ

اے اللہ اللہ نہایت بڑا ہے اور کہیں پھرنا اور زور اللہ کی مدد کے سوا نہیں

اَلْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ یَا عَظِیْمُ تَعَظَّمْتَ بِالْعَظَمَةِ

جو بلند اور عظمت والا ہے اے بزرگ عظمت والا ہے تو ساتھ بزرگیوں کے

وَالْعَظَمَةُ فِي عَظَمَتِكَ یَا عَظِیْمُ

اور بزرگی تیری بزرگی کی بزرگی میں ہے اے عظیم

یٰاَرِبُّ یٰاَقْدِرُ یٰاَخَالِقُ یٰاَكْرِمُ یٰاَرْحِیْمُ

اے رب اے قدرت والا اے خالق اے کرم کرنے والا اے رحم والے

یٰاَسْخِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا

اے مطیع کرنے والے آسمانوں اور زمین کے اور جو ان دونوں میں ہے

یٰاَعْلِیْمُ یٰاَحْسِبُ یٰاَمِیْتُ یٰاَمْتَكِرُ یٰاَصَارُهُ

اے علم والے اے زندہ کرنے اور مارنے والے اے کبریائی اور ضرر والے

يَا جَلِيلُ الْمُنْكَرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ

اے بزرگ بزرگی واسے ہر چیز پر . اس کا حکم

أَمْرُهُ وَالصِّدْقُ وَعْدُهُ يَا جَلِيلُ هُ حَسُودِي

عدل ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے اے بزرگ میرا حاسد

مَقْهُورٌ وَعَدُوِّي مَقْتُولٌ بِقَهْرِكَ يَا قَهَّارُ

مغلوب ہے اور میرا دشمن مقتول ہے تیرے قہر سے اے قہر والے

تَقَهَّرْتِ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِي قَهْرِ قَهْرِكَ

غلبہ کیا تو نے ساتھ غلبہ کے اور قہر تیرے غلبہ کے غلبہ میں ہے

يَا قَهَّارُ قَهْرًا عَدَايِي يَا جَبَّارُ يَا مُذِكَ كُلِّ

اے غالب قہر نازل فرما میرے دشمن پر اے جبار، اے ذلیل کرنے والے ہر

جَبَّارٍ عِنْدِي بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِي يَا مُذِكَ هُ

جابر سرکش کے اپنی قوت کے غلبہ کے قہر سے اے ذلیل کرنے والے

يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْرٍ لَمْ يَرْضَهُ وَلَمْ يُخَالِطْهُ

اے پاک ہر ظلم سے کہ نہیں پسند اور نہیں ملتے اسے

فِعَالُهُ يَا نَقِيًّا هُ قَتَّاتٌ بِسَيْفِ اللَّهِ لَا يُلْفِنُ

کام اس کے اے پاک، میں نے اللہ کی تنوار سے قتل کیا جو لایلاف

قُرَيْشٍ اِيْلَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ هُ

قریش ایلاف میں رحلتہ الشتاء والصیف ہے۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ هُ

اور نہیں پھینکا آپ نے جبکہ پھینکا اپنے لیکن اللہ نے پھینکا

يَا قَوِيُّ يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ أَنْتَ

اے طاقتور اے قہر والے سخت پکڑنے والے تو وہ

الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ يَا قَاهِرُ اقْهَرِ

ہے کہ کسی کو تجھ سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں اے غالب قہر فرما

وَادْفَعْ أَعْدَاءَ آلِيٍّ مِنْ قَهْرِكَ أَنْتَ أَشَدُّ

اور دفع فرما میرے دشمنوں کو اپنے قہر سے تو سب غائبوں پر

الْبُتَاهِرِينَ هُ حَقَّ حَقِّ هُ

غالب ہے

## دردِ خمسہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ

اے اللہ درد بھیج ہمارے سردار محمد پر ان کی تعداد کے برابر جو

صَلٰی عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

آپ پر درد پڑھتے ہیں اور درد بھیج ہمارے سردار محمد پر ان کی تعداد کے

مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

برابر جو آپ پر درد نہیں پڑھتے اور درد بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ كَمَا حَبَّبْتَ وَتَرْضَىٰ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ

محمد پر جیسے تو پسند کرتا اور راضی ہے آپ پر درد بھیجے جانے سے

وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي الصَّلٰوةُ

اور درد بھیج ہمارے سردار محمد پر جیسے آپ پر درد بھیجنا لائق

عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

ہے اور درد بھیج ہمارے سردار محمد پر جیسے تو نے

اَمَرْتَنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ

ان پر درد بھیجنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔



يَا حَمِيدَ الْفِعَالِ ذَا الْمِنَّةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ

اے پسندیدہ کاموں والے احسان کرنے والے اپنی تمام مخلوق پر

بَلُطْفِهِ يَا حَمِيدُهُ يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ

اپنی مہربانی سے، اے محمود، اے فریادرس میرے ہر مصیبت کے وقت

وَمَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَهَجْبِي عِنْدَ كُلِّ

اور پناہ کی جگہ میری ہر تکلیف کے وقت اور میری ہر دعا قبول کرنے

دَعْوَةٍ وَمَوْلِي عِنْدَ كُلِّ وَحْشَةٍ وَيَارَجَائِي

والے اور ہر وحشت کے وقت میرے مخوار اور میری امیدگاہ

حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي يَا غِيَاثِي نَادِيًا

جس وقت میرا حیلہ ختم ہو گیا ہو اے میرے فریادرس آواز دے تو حضرت علی

مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُكَ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ

کو جو عجائبات کے ظہور کی جگہ ہیں، وہ مصیبتوں کے وقت تیری مدد کو پہنچیں گے

كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجِلِي بَوْلَايِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

ہر اندوہ و غم تیری مدد سے جلدی ہی دور ہو جائیں گے اے علی اے علی

يَا عَلِيُّ لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ

اے علی، حضرت علی کے سوا کوئی جوان نہیں ذوالفقار کے مقابلہ کی کوئی تلوار نہیں

۱۲ سات بار پڑھے

۱۲ تین بار

# پہل اسمائے عظام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

سُبْحٰنَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ

پاک ہے تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے ہر شے کے پروردگار

وَوٰرِثَهُ وِرَازِقَهُ وِرَاحِمَهُ سُبْحٰنَكَ

اور اس کے وارث اور رازق اور رحم کرنے والے ، پاک ہے تو

يَا اِلٰهَ الْاِلٰهَةِ الرَّفِیْعِ جَلَالُهُ يَا اِلٰهَ يَا

اے الہ الالہہ کہ بلند ہے بزرگی اس کی اے معبود اے

اَللّٰهُ السَّحُوْدُ فِيْ كُلِّ فِعَالٍ يَا اِلٰهَ يَا

اپنے تمام کاموں میں محمود خدا اے اللہ اے

رَحْمٰنِ كُلِّ شَيْءٍ وِرَاحِمَهُ وِرَازِقَهُ يَا

ہر شے پر بڑے مہربان اور رحم کرنے والے اور رازق دینے والے اے

رَحْمٰنُ يَا حَيُّ حَيِّنْ لَا حَيَّ فِیْ دَیْمُوْمَةٍ

رحمن اے زندہ جبکہ کوئی زندہ نہ ہوگا اس کے دائمی ملک و

مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ يَا حَيُّ يَا قِيُّمُ فَلَایْفُوْتُ

سلطنت اور اس کی بقا میں اے زندہ اے قائم پس نہ فوت ہوگی

شَيْءٌ مِّنْ عَلَيْهِ وَلَا يَوَدُّكَ حِفْظُهُ يَأْتِيَوْمُهُ

کوئی شے اس کے علم سے اور نہیں تھکاتی اسے حفاظت اس کی اسے قائم

يَا وَاحِدُ الْبَاقِي أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرُهُ يَا وَاحِدُ

اسے واحد باقی اول و آخر ہر شے کے اسے واحد

يَا دَائِمٌ لَا فَنَاءَ وَلَا زَوَالَ لِسُلُوكِهِ يَا دَائِمٌ

اسے دائم جس کی سلطنت کو فنا اور زوال نہیں اسے دائم

يَا صَدُّ مِّنْ غَيْرِ شِبْهِهِ وَلَا شَيْءٍ كَمِثْلِهِ

اسے بے نیاز بے مثل اور اس کی مثل کوئی شے نہیں

يَا صَمَدٌ يَا بَارِقٌ فَلَا شَيْءٌ كُفُوُهُ يَدَايِنِيهِ

اسے بے نیاز اسے محسن پس نہیں کوئی اس کے برابر جو اس کے قریب ہو

وَلَا اِمْكَانٌ لِّوَصْفِهِ يَا بَارِقٌ يَا كَبِيرٌ اَنْتَ

اور نہیں ممکن کما حقہ اس کی تعریف اسے احسان کرنے والا اسے بزرگ، تو

اللَّهُ الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ لِيُوصِفَ

وہ اللہ ہے کہ نہیں راہ پاتی عقلیں اس کی عظمت بیان

عَظَمَتِهِ يَا كَبِيرٌ يَا بَارِي النُّفُوسِ بِلَا

کرنے کی اسے بزرگ اسے جانوں کو پیدا کرنے والا سوا

مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ يَا بَارِيُّ يَا شَرِيفٌ

مثال کے جو خالی ہے اپنے غیر سے، اسے بہ دروگاہ اسے پاک

الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ ۙ يَا زَاكِي ۙ

پاکیزہ ہر آفت سے اپنی پاکیزگی کے سبب اے پاکیزہ

يَا كَافِي السُّوسِ لِمَا خُلِقَ مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ

اے کافی کہ فراخ کر نیوالا ہے اس کو جو پیدا کی گئی ہے اس کے فضل کی عطیہ سے

يَا كَافِي ۙ يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْرٍ لَمْ يَرْضَهُ وَ

اے کافی اے پاک ہر زیادتی سے جو اسے پسند نہیں اور

لَمْ يَخَالِطْهُ فِعَالُهُ ۙ يَا نَقِيًّا ۙ يَا حَنَّانُ

نہیں ملتے اسے کام اس کے اے پاکیزہ اے بہت بخشنے والے

أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً

تو وہ ہے کہ ہر شے کو احاطہ کر نیوالا ہے رحمت

وَعِلْمًا ۙ يَا حَنَّانُ ۙ يَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ

اور علم سے اے بہت بخشنے والے اے محسن احسان کرنے والے

قَدْ عَمَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ مِنْهُ ۙ يَا مَنَّانُ ۙ

تمام مخلوقات کو اس کا احسان شامل ہے اے احسان کر نیوالے

يَا دَيَّانَ الْعِبَادِ كُلِّ يُقَوْمٌ خَاضِعًا لِرَهْبَتِهِ

اے بندوں کو جزا دینے والے، ہر ایک کھڑا ہوتا عاجزی سے اس کے ڈر اور

وَرَغْبَتِهِ ۙ يَا دَيَّانُ ۙ يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

اور رغبت سے اے حکم کر نیوالے اے پیدا کرنے والے آسمان والو

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَكُلُّ إِلَيْهِ مَعَادَةٌ يَا خَالِقُ

اور زمین والوں کے اور ہر ایک کو ٹٹنا اسی کی طرف سے اے خالق

يَا رَحِيمُ كُلِّ صَرِيحٍ وَمَكْرُوبٍ وَغِيَاثَهُ وَ

اے رحیم زرنیوالے ہر فریادکنندہ اور مصیبت زدہ کے اور فریاد رس اس کے اور

مَعَادَةٌ هُ يَا رَحِيمُ هُ يَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ وَ

جتنے پناہ کے اے رحیم اے کامل نہیں بیان کر سکتی زبانیں اس کے

كُنَّ جَلَالِهِ وَمَلِكِهِ هُ يَا تَامُّ هُ يَا مُبْدِعَ

جلال و سلطنت کی حقیقت کو اے کامل اے پیدا کرنیوالے

الْبِدَائِعِ لَمْ تَبْعِ فِي إِتْشَاءِهَا عَوْنًا مِنْ خَلْقِهِ

عجیب عجیب چیزوں کے، نہیں تلاش تجھے ان کے پیدا کرنے میں اپنی مخلوق کی مدد کی

يَا مُبْدِعُ هُ يَا عَلَامَ الْغُيُوبِ فَلَا يَفُوتُ شَيْئٌ

اے پیدا کرنیوالے اے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے، نہیں او جھل اس کے علم

مِنْ عَلَيْهِ وَلَا يُودُّ حِفْظَهُ هُ يَا عَلَامَ

سے کوئی شے اور نہ چھکا تی ہے اے حفاظت اس کی، اے بہت جاننے والے

يَا حَلِيمُ ذَا الْأَنَاءِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْئٌ مِنْ

اے بردبار علم والے نہیں برابر اس کے کوئی شے اس کی

خَلْقِهِ هُ يَا حَلِيمُ هُ يَا مُعِيدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا

مخلوق سے اے بردبار اے غم کر کے چیزوں کو لوٹانے والے جبکہ

بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ تَخَافَتِهِ ۝

ظاہر ہو خلقت اس کی دعوت کیلئے اس کے خوف سے

يَا مُعِيدُ ۝ يَا حَمِيدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَمَرِ ۝

اے لوٹانے والے اے پسندیدہ افعال والے احسان کرنے والے

عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ يَلُطِفُهُ ۝ يَا حَمِيدُ ۝

اپنی خلقت ساری پر اپنی مہربانی سے اے بزرگ

يَا عَزِيزَ الْمَنِيِّ الْعَالِبِ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا تَشِيءُ

اے غالب مرتبہ والے غالب اپنے امر پر پس کوئی شے

يُعَادِلُهُ ۝ يَا عَزِيزُهُ يَا قَاهِرُهُ ذَا الْبَطْشِ ۝

اس کے برابر نہیں اے غالب اے قہروالے سخت گرفت

الشَّدِيدِ أَنْتَ الْمَذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ ۝

و اے تو وہ ہے کہ جس سے بدلہ لینے کی کسی کو طاقت نہیں

يَا قَاهِرُهُ يَا قَرِيبَ السُّتَعَالِيِّ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ۝

اے قہروالے اے قریب بند ہر شے پر ہے

عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ ۝ يَا قَرِيبُ ۝ يَا مُذِلَّ كُلِّ

اس کی رفعت کی بلندی اے قریب اے ہر جاہل سرکش کو

جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ ۝ يَا مُذِلَّ

ذلیل کرنے والے اپنے توانا ہونے کے غلبہ سے اے دہوا کرنے والے

يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَاةَ أَنْتَ الَّذِي فَلَقَ

اے نور ہر شے کے اور ہادی اس کے تو نے دور کیا ہے

الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ يَا نُورَهُ يَا عَالِي الشَّامِخِ

تاریکیوں کو اپنے نور سے اے نور اے بلند رفعت والے

فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَلُوًّا رِيفَاعِهِ يَا عَالِيَهُ

ہر شے پر بلندی اس کی رفعت سے اے بلند

يَا قُدُّوسَ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَلَا مِثْيَبَ

اے پاک ظاہر ہر برائی سے پس کوئی چیز نہیں

يُعَاذُهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ يَا

غالب ہو اس پر اس کی تمام مخلوق سے اپنے لطف سے اے

قُدُّوسُ يَا مُبْدِي الْبِرَايَا وَمَعِيدَهَا

پاکیزہ اے خلقت کو پیدا کرنے والے اور لوٹانے والے

بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ يَا مُبْدِي الْيَاجِلِيلِ

اس کو فنا کرنے کے بعد اپنی قدرت سے اے پیدا کرنے والے اے عظمت والے

الْمُتَكَبِّرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَ

کبریائی والے ہر شے پر پس عدل امر اس کا ہے اور

الصِّدْقُ وَعْدُهُ يَا جَلِيلُ يَا مُحْسِنُ

اس کا وعدہ سچا ہے اے عظمت والے اے تعریف کئے گئے

فَلَا تَبْلُغُ الْأَوْهَامَ كُلَّ كُنْهِ تَنَائِهِ وَمَحْبَدِهِ ۝

پس نہیں پہنچتے گمان اس کی تعریف اور بزرگی کی تمامی حقیقت کو

يَا حَمُودَهُ يَا كَرِيمَ الْعَفْوَ ذَا الْعَدْلِ أَنْتَ

اے تعریف والے اے بڑے معاف کرنے والے عدل والے تو وہ ہے

الَّذِي مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَدْلُهُ يَا كَرِيمَهُ ۝

کہ جس کے عدل نے ہر شے کو بھر دیا ہے اے سخی

يَا عَظِيمُ ذَا التَّنَائِ الْفَاخِرِ وَذَا الْعِزِّ وَالْمَجْدِ

اے بزرگ فخر والی تعریف والے اور عزت اور بزرگی

وَالْكِبْرِيَاءِ فَلَا يَذِلُّ عِزُّهُ يَا عَظِيمُ ۝ يَا

اور کبر بانی و اے اس کی عزت پر داغ نہیں آسکتا اے بزرگ اے

عَجِيبَ الصَّنَائِعِ فَلَا تَنْطِقُ الْأُسُنُ بِكُلِّ

عجیب مصنوعات والے نہیں بیان کر سکتیں زبانیں اس کی

الْآثَةِ وَنِعْمَائِهِ وَتَنَائِهِ ۝ يَا عَجِيبُ يَا قَرِيبُ ۝

تمام نعمتوں اور انعاموں اور تعریف کو اے شگفتہ اے نزدیک

الْمُجِيبُ الْمُدَانِي دُونَ كُلِّ شَيْءٍ قُرْبَهُ ۝

دعا قبول کرنے والے بہت قرب والے ہر شے سے اس کا قرب نزدیک ہے

يَا قَرِيبُ ۝ يَا عِيَانِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ ۝

اے قریب اے فریاد رس ہر مصیبت کے وقت اور



مَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَجُحِيْبِي عِنْدَ كُلِّ

پناہ دینے والے مجھے ہر مصیبت میں اور قبول کرنے والے میری ہر

دَعْوَةٍ وَمَوْئِسِي عِنْدَ كُلِّ وَحْشَةٍ

دعا کو اور محبت کرنے والے مجھ سے ہر تنہائی میں

وَيَا رَجَائِي حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي

اور اے امید دلانے والے مجھے جب میری امید ٹوٹ جائے

يَا غِيَاثِي

اے میرے فریاد رس

# دعائے ختم تہم پہل اسماء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ الْاَعْظَمِ

سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے اللہ ان بڑے ناموں کے وسیلہ سے

اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

کہ درود بھیجے تو ہمارے سردار محمد پر اور ہمارے سردار کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُزِقِّنِيْ اِيْمَانًا وَاَمَانًا وَعَافِيَةً

اور نصیب کر ہمیں ایمان اور امان اور عافیت

مِّنْ عُقُوْبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَنْ تُخَبِّسَ

دنیا اور آخرت کے عذابوں سے اور روک لے تو

حَتّٰی اَبْصَارَ الظّٰلِمِيْنَ وَالْمُرِيْدِيْنَ بِى السُّوْءِ

مجھ سے نظریں ظالموں کی اور میرے متعلق برائی کا ارادہ کرنے والوں کی

وَاَنْ تُصْرِفَ قُلُوْبَهُمْ عَنِ شَرِّ مَا يُضْمِرُوْنَ

اور پھیر دے دل ان کے اس شر سے جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں

اِلٰى خَيْرٍ لَا يَسِيْلُكَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاؤُ

ایسی نیکی کی طرف جس کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں اے اللہ یہ دعا

مِنِّي وَمِنْكَ إِجَابَةٌ وَهَذَا الْجُهْدُ مِنِّي

مجھ سے ہے اور تجھ سے قبولیت ہے اور یہ کوشش میری ہے

وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ ۙ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور تجھ پر توکل ہے ، اور نہیں پھرنا اور طاقت مگر اللہ سے

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۙ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى

جو بلند عظمت والا ہے ، اور دُود بھیجے اللہ تعالیٰ

خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

اپنی خلقت سے بہتر نہاے سردار محمد اور ان کی آل اور اصحاب

أَجْمَعِينَ ۙ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۙ

سب پر اپنی رحمت سے اے بہت رحم والے رحم کرنے والوں سے

## درود ہزارہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد پر اور ہمارے سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّمَّا عَدَدَ الْاَلْفِ

محمد کی آل پر ہر شمار ہر ذرہ کے سو ہزار

اَلْفِ مَرَّةٍ يَا رَبُّ (۱۵ مرتبہ پڑھے) يَا مُجِيبُ

ہزار مرتبہ اے پروردگار اے قبول کرنے والے

(۱۳ مرتبہ پڑھے) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ

پناہ مانگتا ہوں میں اپنے پروردگار سے ہر

ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ (اسے تین مرتبہ پڑھے)

گناہ سے اور اس کی طرف لوٹتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ هُ الرَّحْمٰنِ

تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے نہایت مہربان

۱۲ بار پڑھیں

الرَّحِيمِ هُمَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ هَا يَاكَ نَعْبُدُ

رہم والا مالک روزِ جزا کا ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے

وَايَاكَ نَسْتَعِينُ هَا هِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو سیدھا راستہ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ

الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ هَا آمِينَ

ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رہم والا ہے

الَّذِي هَدَىٰ ذَٰلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هَدَىٰ

یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت دیتی ہے

لِلْمُتَّقِينَ هَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ

پرہیزگاروں کو جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

قائم کرتے ہیں نماز اور ہمارے دئے سے خرچ کرتے ہیں

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

اور وہ جو ایمان لاتے ہیں تیری طرف نازل شدہ کتاب اور جو

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ؕ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ؕ

اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؕ

یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہدایت پائیں گے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؕ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ

الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي

قائم ہے نہیں بچھڑتی اسے اونگھ اور نیند اسی کیلئے ہے

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے جو

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

شفاعت کرے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے، جانتا ہے جو ان کے

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور نہیں جانتے کچھ بھی اس کے

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

علم سے مگر جتنا وہ چاہے گھیرا ہے اس کی حکومت نے

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

آسمانوں اور زمین کو اور اس پر ان کی حفاظت گراں نہیں

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے کوئی زبردستی نہیں دین میں

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ

خوب ظاہر و ممتاز ہو گئی ہدایت گمراہی سے پس جو منکر ہوا

بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

شیطان کا اور ایمان لایا اللہ پر پس تقام لی اس نے

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

گرہ مضبوط جو نہیں کھل سکتی اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

سننے جاننے والا ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهمُ الطَّاغُوتُ

اور جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے

يُخْرِجُوهم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ

جو نکالتے ہیں انہیں نور سے تاریکیوں کی طرف وہ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُوَ الَّذِي

دوزخی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے فرما دیجئے اے اللہ

لہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ۱۲

مَالِكِ الْمَلِكِ نُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

مالک ہے تو بادشاہی کا توجہ سے چاہے حکومت دے اور جس سے

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ

چاہے چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے

مَنْ تَشَاءُ طَيِّبِيكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ

ذیل کوے نیکی تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر شے پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ

قدرت والا ہے داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ

ہے تو دن کو رات میں اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے

وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ

اور نکالتا ہے تو مردہ کو زندہ سے اور رزق دیتا ہے توجہ سے

تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

چاہے بے حساب کے۔



# دُعَا مُعْنَىٰ اِرْحَمْتِ اَوْ لَسْتِ عِنْدِي قَرْنِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو رحم کرنے والا مہربان ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد اور ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ هُ وَبِكَ

سردار محمد کی آل پر اور برکت اور سلامتی اور تجھی سے

اَسْتَغِيْثُ فَاغِيْثْنِيْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَاكْفِنِيْ

مدد مانگتا ہوں تو میری مدد فرما اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے میری کفایت فرما

يَا كَافِيْ اَكْفِنِيْ السُّهُمَاتِ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا

اے کافی کفایت فرما میری دنیا اور آخرت کی

وَالْاٰخِرَةِ هُ وَيَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَيَا

مشکلات میں اور اے بخشش کرنے والے دنیا و آخرت میں

رَحِيْمًا هُ اَنَا عَبْدُكَ يَا بِيْطْرُكُ يَا بِيْطْرُكُ

اور رحم کرنے والے میں تیرا بندہ تیرے در پر پڑا ہوں، فقیر ہوں تیرے در کا

سَالِكُ يَا بِيْطْرُكُ ذَلِيْلُكَ يَا بِيْطْرُكُ اَسِيْرُكَ يَا بِيْطْرُكُ

سوالی ہوں تیرے در کا، عاجز ہوں تیرے در پر قیدی ہوں تیرے در کا

صَعِيفُكَ بِبَابِكَ مَسْكِينُكَ بِبَابِكَ ضَيْفُكَ

کمزور تیرا تیرے در پر ہے مسکین تیرا تیرے در پر ہے مہمان تیرا

بِبَابِكَ يَا رَبِّ الْعَلِيِّينَ هُ الْظَّالِمِ حُرِّبَابِكَ

تیرے در پر ہے اے پروردگار جہانوں کے تباہ حال تیرے در پر ہے

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ هُ مَهْمُومِكَ بِبَابِكَ

اے فریاد رس فریادیوں کے نمگین تیرا تیرے در پر ہے

يَا كَاشِفَ كُرْبِ الْمَكْرُوبِينَ هُ عَاصِيكَ

اے کھولنے والے مصیبت، مصیبت زدوں کے گنہگار تیرا

بِبَابِكَ يَا طَالِبَ الْبَارِيْنَ هُ الْمُسْقِرُ بِبَابِكَ

تیرے در پر ہے اے تلاش کرنے والے نیکو کاروں کے گناہوں کا اقراری تیرے در پر ہے

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ هُ الْخَاطِئُ بِبَابِكَ

اے بہت رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے خطا کار تیرے در پر ہے

يَا غَافِرَ الْمُنِيبِيْنَ هُ الْمُعْتَرِفُ بِبَابِكَ

اے بخشنے والے گنہگاروں کے گناہوں کا مٹنے والا تیرے در پر ہے

يَا رَبَّ الْعَلِيِّينَ هُ الظَّالِمِ بِبَابِكَ يَا مَآمِلَ

اے پروردگار جہانوں کے ظالم تیرے در پر ہے اے امید گاہ

الظَّالِمِيْنَ هُ الْمَسِيْبِيْ بِبَابِكَ الْبَائِسُ بِبَابِكَ

طلب کرنے والوں کے بدکار تیرے در پر ہے ڈرا ہوا تیرے در پر ہے

الْخَاشِعُ بِبَابِكَ إِرْحَمْنِي يَا مَوْلَايَ أَنْتَ

عاجز تیرے در پر ہے رحم کر مجھ پر اے میرے مولانا تو

الْغَافِرُ وَأَنَا السُّبِيُّ وَهَلْ يَرْحَمُ السُّبِيُّ

بخشنے والا ہے اور میں گنہگار ہوں اور کون رحم کرے گی گنہگار پر

إِلَّا الْغَافِرُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا

بخشنے والے کے سوا، میرے مولانا میرے مولانا تو پروردگار ہے اور میں

الْعَبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الرَّبُّ مَوْلَايَ

بندہ ہوں اور نہیں رحم کرتا بندے پر مگر پروردگار میرے مولانا

مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ وَهَلْ

اے مولانا تو مالک ہے اور میں مملوک اور نہیں

يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ

رحم کرنا مملوک پر کوئی بھی مالک کے سوا میرے مولانا میرے مولانا

أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ

تو غالب ہے اور میں ذلیل اور نہیں رحم کرتا ذلیل پر

إِلَّا الْعَزِيزُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا

مگر عزیز میرے مولانا میرے مولانا تو طاقت والا ہے اور میں

الضَّعِيفُ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ

کمزور ہوں اور نہیں رحم کرتا کمزور پر طاقتور کے سوا

مَوْلَايَ مَوْلَىٰ أَنْتَ الْكَرِيمُ وَأَنَا اللَّيْمُ وَ

میرے مولا میرے مولا تو کریم ہے اور میں ناکس اور

هَلْ يَرْحَمُ اللَّيْمَ إِلَّا الْكَرِيمُ مَوْلَايَ

نہیں رحم کرتا ناکس پر کریم کے سوا کوئی میرے مولا

مَوْلَايَ أَنْتَ الرَّزَاقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ

میرے مولا تو بہت رزق دینے والا ہے اور میں رزق دیا ہوا اور نہیں

يَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ إِلَّا الرَّازِقُ مَوْلَايَ

رحم کریگا مرزوق پر مگر رازق میرے مولا

مَوْلَايَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَأَنْتَ

میرے مولا تو عزت والا اور میں ذلیل ہوں اور تو

الْغَفُورُ وَأَنَا الْمَذْنُوبُ وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَ

بخشنے والا اور میں گنہگار ہوں اور تو طاقت والا اور

أَنَا الضَّعِيفُ هُ إِلَهِي الْأَمَانُ الْأَمَانُ فِي

میں کمزور ہوں اے اللہ توبہ - توبہ

ظُلْمَةِ الْقُبُورِ وَضِيْقَهَا هُ إِلَهِي الْأَمَانُ

قبر کی تاریکی اور اس کی تنگی میں اے اللہ توبہ

الْأَمَانُ عِنْدَ سُؤَالِ سُنْكَ وَتَكْبِيرِ وَهَيْبَتِهِمَا هُ

توبہ سُنْكَ نیکر کے سوال کرنے اور ان کی ہیبت کے وقت

إِلٰهِ الْأَمَانَ الْأَمَانَ عِنْدَ وَحُشَّةِ الْقُبُورِ

اے اللہ پناہ دے پناہ دے قبر کی تنہائی اور

صَغُطَتِهَا إِلٰهِ الْأَمَانَ الْأَمَانَ فِي يَوْمٍ كَانَ

سنگینے وقت اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے

مِقْدَارِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلٰهِ

جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اے اللہ

الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ يُمْخِرُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ

پناہ دے پناہ دے اس دن ہے جس میں صور پھونکی جائیگی پس مر جائیگا

مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمَانَ

جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر جس کو

شَاءَ اللَّهُ إِلٰهِ الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ زُلْزَلَتِ

اللہ چاہے اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن کہ کانپ

الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِلٰهِ الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ

جائے گی زمین اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن

تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ إِلٰهِ الْأَمَانَ

جب پھٹ جائیگا آسمان ساتھ بادل کے اے اللہ پناہ دے

الْأَمَانَ يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءُ كَطَيِّ السَّجْلِ

پناہ دے اس دن سے کہ پیٹ دیکھا تو آسمان کو مثل پیٹ دینے قبیلہ کے

لِلْكِتَابِ إِلَهِی الْأَمَانَ الْأَمَانَ یَوْمَ تَبَدَّلُ

کتابوں کو اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے جب بدلا

الْأَرْضُ خَیْرًا لِّلْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا

جائے گا زمین کو غیر زمین سے اور آسمانوں کو اور ظاہر ہوں گے

بِیَدِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ إِلَهِی الْأَمَانَ الْأَمَانَ

اللہ واحد قہار کے لئے اے اللہ پناہ دے پناہ دے

یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدَاہُ وَیَقُولُ

اس دن سے جب دیکھے گا آدمی اپنے کئے کو اور کہے گا کافر

الْكَافِرُ لَیْسَتِنِّی كُنْتُ تَرَابًا ۗ إِلَهِی الْأَمَانَ

کاش میں مٹی ہوتا اے اللہ پناہ دے

الْأَمَانَ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ

پناہ دے اس دن سے جب نفع نہ دیکھا مال اور اولاد مگر جو آئے گا

أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۗ إِلَهِی الْأَمَانَ الْأَمَانَ

اللہ کے پاس سلیم دل سے اے اللہ پناہ دے پناہ دے

یَوْمَ یُنَادِ السُّنَادِ مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ أٰیْنَ

اس دن سے جب منادی آواز دیکھا عرش میں سے کہ کہاں ہیں

الْعَاصُونَ وَاٰیْنَ السُّدُنُوبُونَ وَاٰیْنَ الْخَاطِفُونَ

عاصی اور کہاں ہیں گنہگار اور کہاں ہیں ڈرنے والے

وَأَيْنَ الْخَاسِرُونَ هَلُمُّوا إِلَى الْحِسَابِ

اور کہاں ہیں خسارے والے ، آؤ حساب کی طرف

أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَايَتِي فَأَقْبِلْ

تو جانتا ہے میرے پوشیدہ اور ظاہر کو پس قبول کر

مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي

میرا عذر اور تو میری حاجت کو جانتا ہے پس عطا کر مجھے

سُؤَالِي هُ يَا إِلَهِي أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ

سوال میرا . اے اللہ افسوس گناہوں کی کثرت سے

وَالْعِصْيَانِ أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الظُّلْمِ وَ

اور نافرمانی سے، افسوس ظلم اور

الْجَفَاءِ أَهْ مِنَ النَّفْسِ الْمَطْرُودَةِ أَهْ

بدی کی کثرت سے، افسوس نفس امارہ سے افسوس

مِنَ النَّفْسِ السَّطْوَعَةِ لِلْهَوَى أَهْ

اس نفس پر جو خواہشات کا بھاری ہے افسوس

مِنَ الْهَوَى أَهْ مِنَ الْهَوَى أَهْ مِنَ الْهَوَى

خواہش نفسانی پر افسوس خواہش نفسانی پر افسوس خواہش نفسانی پر

أَخْتَنِي يَا مَغِيثُ عِنْدَ تَغْيِيرِ حَالِي هُ يَا إِلَهِي

فریاد سن میری اے فریادرس میری حالت کی تبدیلی کے وقت اے اللہ

إِنِّي عَبْدُكَ الْمَذْنُوبُ الْمُجْرِمُ الْمُخْطِئُ

میں تیرا گنہگار مجرم خطا کار بزدہ ہوں

أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ

پناہ دے مجھے دوزخ سے اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے

اللَّهُمَّ أَنْ تَرْحَمَنِي فَأَنْتَ

اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم کرے تو تو

أَهْلٌ وَإِنْ تَعَذَّبْتَنِي فَأَنَا أَهْلٌ

اہل ہے اور اگر تو مجھے عذاب دے تو اس کا اہل ہوں

فَا رَحْمَتِي يَا أَهْلَ التَّقْوَىٰ وَيَا

پس رحم فرما مجھ پر اے تقویٰ والے اور اے

أَهْلَ السَّغْفِرَةِ وَيَا أَرْحَمَ

بخشش والے اور اے زیادہ رحم والے

الرَّاحِمِينَ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ

رحم کرنے والوں سے اور اے بہتر بخشش والوں کے

وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ هُ حَسْبِي

اور اے بہتر مددگاروں کے کافی ہے مجھے

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ السَّوْلِي

اللہ اور اچھا ہے کارساز اچھا ہے مولیٰ



وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ

اور اچھا ہے مددگار اور دروہ بھیجے اللہ تعالیٰ

خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ

اپنی خلقت میں سے بہترین ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل اور

أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط بِرَحْمَتِكَ يَا

اصحاب سب پر اپنی رحمت سے اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

بہت رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے

# قصیدۃ الانبیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَقَانِي الْحَبُّ كَأَسَاتِ الْوِصَالِ  
فَقُلْتُ لِخَيْرِي نَحْوِي تَعَالِ

سَعَتُ وَمَشَتْ لِنَحْوِي فِي كُوَيْسِ  
فَهَيْتُ بِسُكْرِي بَيْنَ السَّمَوَاتِ

فَقُلْتُ لَيْسَ بِي إِلَّا قَطَابٌ لَسُوا  
بِحَالِي وَأَدْخَلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ

وَهَمُّوْا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جَنُودِي  
فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِ

شَرِبْتُمْ فَضُلَّتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي  
وَلَا بِنَلْتُمْ عَلَوِي وَاتِّصَالِ

مَقَامِكُمْ عَلَى جَمْعًا وَلَكِنْ  
مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِ

أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ وَحْدِي  
يُصَرِّفُنِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ

أَنَا الْبَارِئُ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ  
وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِ

كَسَانِي خِلْعَةً بِطَرَازِ عَزْمٍ  
وَتَوَجَّجَنِي بِتِيَجَانِ الْكَمَالِ

وَأَطَّلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ  
وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي

وَوَلَّأَنِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا  
فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارٍ  
لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي التَّرْوَالِ

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ  
لَدُكَّتْ وَاخْتَفَّتْ بَيْنَ الْجِبَالِ

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ  
لَخِيدَتْ وَأَنْطَفَّتْ مِنْ سِرِّحَالٍ

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ  
لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى

وَمَا مِنْهَا شَهُورٌ أَوْ دَهُورٌ  
شَرٌّ وَتَنْقِضِي إِلَّا آتَالِي

وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي  
وَتُعَلِّمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَائِي

مُرِيدِي هِنْدٍ وَطِبِّ وَاشْطَعُ وَغَنِّ  
وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَإِلَيْ سَمْعَالِ

مُرِيدِي لَاتَخَفَنَّ اللَّهُ رَبِّي  
عَطَانِي بِرَفْعَةٍ نَبَّتُ السَّمَانَ

مُرِيدِي لَاتَخَفَنَّ وَأَشْرِي فَيَانِي  
عَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

طَبُوبِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دَكَّتْ  
وَشَاءُ وَسُ السَّمَاءِ قَدِيدِي

بِلَادِ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتِ حُكْمِي  
وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدِصْفَالِي

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا  
كَحُرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ إِصْصَالِ

وَكُلِّ وَبِيٍّ لَهَا قَدَمٌ وَإِنِّي  
عَلَى قَدَمِ النَّجِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا  
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ تَوَلَّى السَّوَالِ

رِجَالِي فِي هَوَا جِرِهِمْ صِيَامٌ  
وَفِي ظُلْمِ اللَّيَالِي كَاللَّوَالِ



أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالسَّخَدَعِيُّ مَقَامِي  
وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرَّجَالِ

أَنَا الْجَيْلِيُّ مَعِيَ الدِّينِ إِسْمِي  
وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الشُّهُورِ إِسْمِي  
وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

هَذِهِ سِلْسِلَةٌ قَادِرِيَّةٌ جَلَالِيَّةٌ شَرِيفِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ

سب تعریفیں اللہ کے لئے جو پورے اور دو گار جہانوں کا ہے اور نفع آخرت میں

لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا

متقین کو ہے اور درود و سلام ہو اس کے رسول

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَّا بَعْدُ

محمد پر اور اس کی آل اور اصحاب سب پر اس کے بعد

فَهَذِهِ سِلْسِلَتِي مِنْ مَشَائِخِي فِي الطَّرِيقَةِ

پس یہ میرا سلسلہ ہے میرے مشائخ قادریہ کی

الْقَادِرِيَّةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

طرف سے رضا ہو اللہ تعالیٰ کی ان سب پر

إِلَهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْكَوْنِينَ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ

اے اللہ بظہن سردار کونین رسول ثقلین

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى أَحْمَدِ

حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد

مُجْتَبَىٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مجتبیٰ درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر اور سلام

إِلَهِي بِحُرْمَةِ أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ إِمَامِ

اے اللہ بحرمۃ اللہ کے غلبہ والے شیر امام

الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

مشرق و مغرب کے امیر مومنوں کے

إِمَامِ الْوَاصِلِينَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

امام واصلین کے سردار ہمارے حضرت علی بن ابی طالب کے

كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ إِلَهِي

عزت دے اللہ تعالیٰ ان کے نیک چہرے کو اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ إِمَامِ الْأَصْفِيَاءِ حَضْرَتِ

بحرمۃ مشائخ کے شیخ امام صوفیوں کے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا حَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

خواجہ سردار ہمارے حسن بصری کے راضی ہو اللہ

تَعَالَىٰ عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل شیخ مشائخ کے

سُلْطَانِ الْأَتْقِيَاءِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا

بادشاہ بہ ہیزگاروں کے حضرت خواجہ سردار ہمارے

حَبِيبِ الْعَجَبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِي هِي

حبیب عجیب کے رضی ہو اللہ تعالیٰ ان پر اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ بُرْهَانَ الْأَصْفِيَاءِ حَضْرَتِ

بحرمت شیخ مشائخ کے دلیل صوفیوں کے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا دَاوُدَ الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

خواجہ سردار ہمارے داؤد طائی کے رضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِي هِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ

ان سے، اے اللہ بظہیل شیخ المشائخ قطب

الْإِرْشَادِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا مَعْرُوفِ

ہدایت حضرت خواجہ سردار ہمارے معروف

إِنكَرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِي هِي بِحُرْمَةِ

کرخی کے رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے، اے اللہ بظہیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ وَاهِبِ الْمُرَادِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

شیخ المشائخ دینے والے مراد حضرت خواجہ

سَيِّدِنَا أَبِي الْحَسَنِ بِيْرِي السَّقَطِي رَضِيَ اللَّهُ

سردار ہمارے ابوالحسن بیری سقطی کے رضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ

تعالیٰ ان سے، اے اللہ بظہیر شیخ المشایخ

وَسَيِّدِ الْأَسْيَادِ مَرْجِعِ الْأَوْتَادِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

اور سرداریوں کے سردار اوتاد کے مرجع حضرت خواجہ

سَيِّدِنَا جُنَيْدِ الْبَغْدَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سردار ہمارے جنید بغدادی کے راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ

ان سے، اے اللہ بحرمۃ شیخ المشایخ

فَرْدِ الْأَفْرَادِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا ابْنِ بَكْرِ

فرد فردوں کے حضرت خواجہ سردار ہمارے ابوبکر

مُحَمَّدِ الشَّيْبَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

محمد شبلی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ مُصَلِّهِ الْعِبَادِ

اے اللہ بحرمۃ شیخ المشایخ اصلاح کرنے والے بندوں کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا ابْنِ الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَّاحِدِ

حضرت خواجہ سردار ہمارے ابوالفضل عبدالواحد

التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي

تیمیہ کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ صَاحِبِ الْعِلْمِ وَ

بجرت شیخ المشائخ علم اور

الْحِلْمِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا أَبِي الْفَرَجِ

علم والے حضرت خواجہ سردار ہمارے ابو الفرج

عُلَمَاءِ الدِّينِ الطَّرْطُوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

علماء الدین طرطوسی کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان پر

إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ صَاحِبِ

اے اللہ بحرمۃ شیخ المشائخ عطا

الْجُودِ وَالْكَرَمِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا

اور کرم والے حضرت خواجہ سردار ہمارے

أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ الْهَنْكَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

ابو الحسن علی ہنکاری راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

ان سے، اے اللہ بحرمۃ شیخ المشائخ

مُرْتَدِّ الثَّقَلَيْنِ إِمَامِ الْفَرِيقَيْنِ حَضْرَتِ

ہدایت دینے والے ثقلین کے امام فریقین کے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ عَلِيِّ السُّبَّارِكِ

خواجہ سردار ہمارے ابو سعید علی مبارک

السَّخْرُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِي هِي

مخزومی کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان پر اسے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ قُطُبِ الْأَقْطَابِ

بوسیدہ شیخ المشایخ قطب الاقطاب

فَرْدِ الْأَفْرَادِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ غِيَاثِ الدَّارَيْنِ

فرد الافراد غوث ثقلین کے فریاد سننے والے دارین کے

فِي الْإِسْلَامِ وَالْحَقِّ وَالشَّرْعِ وَالسُّلْطَانِ وَالْقُلُوبِ

اسلام میں اور حق اور شرع اور ملت اور دلوں

وَالسُّنَّةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالذِّينِ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ

اور سنت اور طریقت اور دین کے سردار ہمارے امام

أَبِي مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِ

ابو محمد سید عبد القادر حسنی

وَالْحُسَيْنِيِّ الْجِيلَانِيِّ غَوْثِ اعْظَمِ مَحْبُوبِ

اور حسینی جیلانی غوث اعظم محبوب

سُبْحَانَ رَبِّي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِي هِي

رب کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان پر اسے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ نَافِعِ الْعِبَادِ وَمَرْجِعِ

بوسیدہ شیخ المشایخ نافع العباد کو اور جگہ لوٹنے

الْأَوْتَادِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ الْحَدَّادِ

اوتاد کی حضرت خواجہ سردار ہمارے علی حداد کے

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان پر اے اللہ بحرمۃ شیخ

الْمَشَائِخِ صَاحِبِ الذِّكْرِ وَالرُّهْدِ حَضْرَتِ

المشاخ ذکر اور زہد والے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ الْإِفْلَحِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

خواجہ سردار ہمارے علی افلح راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ صَاحِبِ

ان سے، اے اللہ بحرمۃ شیخ المشائخ

الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ قُطْبِ الْيَمِينِ حَضْرَتِ

صدق و صفا والے قطب یمن کے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا أَبِي الْغَيْثِ بْنِ جَمِيلٍ

خواجہ سردار ہمارے ابو الغیث بن جمیل

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے، اے اللہ بحرمۃ شیخ

الْمَشَائِخِ صَاحِبِ الْفَقْرِ وَالْهُدَى حَضْرَتِ

المشاخ فقر اور ہدایت والے حضرت



خَوَاجَةٌ سَيِّدِنَا فَاضِلِ بْنِ عَيْسَى رَضِيَ اللَّهُ

خواجہ سردار ہمارے فاضل بن عیسے راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

تعالے ان سے، اے اللہ بحرمتہ شیخ المشائخ

صَاحِبِ الْعِرْفَانِ وَالسَّخَاةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةٍ

معرفت اور سخاوت کے حضرت خواجہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَبْدِ الْغَيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

سردار ہمارے محمد عبید غیثی، راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

تعالے ان سے، اے اللہ بحرمتہ شیخ المشائخ

جَمَالِ مِلَّةِ الْكَامِلِينَ الْعَارِفِينَ جَلَالِ

زینت ملت کاملوں عارفوں کی جلال

أُمَّةِ الرَّاشِدِينَ السُّرُودِيِّينَ حَضْرَتِ

گروہ ہدایت والوں ہدایت دینے والوں کے حضرت

خَوَاجَةٍ مَخْدُومِ جَلَالِ الدِّينِ الْبُخَارِيِّ

خواجہ مخدوم جلال الدین بخاری

جَهَانِيَانِ جَهَانَ كَشْتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

جہاں جہاں گشت راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلٰهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ السَّائِحِ عُمْدَةٍ

اے اللہ بھرتہ شیخ السائح کا بلین کے

الكَامِلِينَ زُبْدَةَ الْوَاصِلِينَ أَنْسَانِ عَيْنِ

عمدہ خلاصہ واصلین کے محققین کی آنکھوں

وَعُيُونِ السُّحَقِيِّينَ وَارِثِ عُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ وَ

کی آنکھ کی پستلی وارث نبیوں کے علوم کے اور

الْمُرْسَلِينَ مُقْتَدَايَ أَوْلِيَاءِ رُوزِ كَامِرٍ

مرسلوں کے وقت کے اولیاء کے مقتدا

يُشْتَوَاءِ أَصْفِيَاءِ كِبَارِ مَظْهَرِ صِفَاتِ

بزرگ صوفیوں کے اللہ کی صفات کے

رَحْمَانِي مَوْرِدِ الطَّائِفِ سُبْحَانِي مُخَاطَبِ

مظہر اللہ کی مہربانیوں کے وارد ہونے کی جگہ مخاطب

بِمِخْطَابِ مَحْبُوبِ يَزْدَانِي حَضْرَتِ عَوْثِ

ساتھ خطاب خدا کے محبوب کے حضرت عوث

الْعَالَمِ مِيرِ كَبِيرِ مَخْدُومِ أَحَدِ الدِّينِ

جہان کے میر کبیر مخدوم دین میں یکتا

سُلْطَانِ سَيِّدِ أَشْرَفِ جِهَانِ كِيرِ سَمْنَانِي

بادشاہ سید اشرف جہانگیر سمنانی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بوسیہ شیخ

الْمَشَاحِخِ عُمَدَةِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ بَدَاةِ الْأَصْفِيَاءِ

المشاحخ عمدہ اولیاء سے خلاصہ صوفیوں کے

سَرُّوْ كَلِيسْتَانِ حُسَيْنِي وَحَسْنِي نِهَالِ

حسینی و حسنی باغ کے سرور باغ

بُوسْتَانِ نَبِي الْمَدِينِ نُورِ دِيْدَةٍ حَضْرَتِ

نبی مدنی کے باغ کے نور منہاں حضرت محبوب یزدانی

مَحْبُوْبِ يَزْدَانِي سُرُوْرِ سَيْنَةٍ حَضْرَتِ

کی آنکھ کے نور حضرت محبوب سجانی کے سینہ

مَحْبُوْبِ سُبْحَانِي قُطْبِ الْأَفَاقِ حَضْرَتِ

کی خوشی قطب زمانوں کے حضرت

سَيِّدِنَا الشَّاهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نُورِ الْعَيْنِ

سیدنا شاہ عبدالرزاق نور العین

الْأَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَادَةَ نَشِيْنِ رَضِيَ

اشرفی جیلانی سجادہ نشین راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَاحِخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بجزمت شیخ المشاحخ

صَاحِبِ الزُّهْدِ وَالْعُرْفَانِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

زہد اور معرفت والے حضرت خواجہ

سَيِّدِنَا الشَّاهِ حَسَنُ خَلْفِ أَكْبَرِ اشْرَفِي

سردار ہمارے شاہ حسن خلف اکبر اشرفی

الْجِيلَانِي سَجَادَةٌ نَشِينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

جیلانی سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ صَاحِبِ

ان سے۔ اے اللہ بحرمۃ شیخ المشایخ صاحب

الْعِزِّ وَالشَّرَفِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا

عزت اور شرافت کے حضرت خواجہ سیدنا

الشَّاهِ مُحَمَّدٌ أَشْرَفُ الْمَعْرُوفِ شَاهِ

شاہ محمد اشرف المعروف شاہ

شَهِيدِ اشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَادَةٌ نَشِينِ

شہید اشرفی جیلانی سجادہ نشین

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بحرمۃ شیخ

الْمَشَايخِ مَظْهَرِ أَنْوَارِ الصَّمِيدِ حَضْرَتِ

مشایخ کے مظہر انوار اللہ بے نیاز کے حضرت

خَوَاجَه سَيِّدِنَا الشَّاهُ مُحَمَّدٌ اشْرَفِي

خواجہ سیدنا شاہ محمد اشرفی

الْجِيلَانِي سَجَادَةٌ نَشِيئِينَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

جیلانی سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ

ان سے، اے اللہ بحرمت شیخ مشایخ کے

مَهْبِطِ تَجَلِّيَّاتِ رَحْمَانِي حَضْرَتِ خَوَاجَه

اللہ کی تجلیات کے اتارنے کی جگہ حضرت خواجہ

سَيِّدِنَا الشَّاهُ حُسَيْنٌ ثَانِي اشْرَفِي الْجِيلَانِي

سیدنا شاہ حسین ثانی اشرفی جیلانی

سَجَادَةٌ نَشِيئِينَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ فَتَانِي

اے اللہ بحرمت شیخ مشایخ کے فنا

الرَّسُولِ حَضْرَتِ خَوَاجَه سَيِّدِنَا الشَّاهُ

فی الرسول حضرت خواجہ سیدنا شاہ

عَبْدِ الرَّسُولِ اشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَادَةٌ نَشِيئِينَ

عبد الرسول اشرفی جیلانی سجادہ نشین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بحرمت شیخ

الْمَشَايخِ فَانِي فِي اللهِ بَاقِي بِاللَّهِ حَضَرَتِ

المشاخخ فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت

خَوَاجَهُ سَيِّدِنَا الشَّاهُ نُورِ اللهِ أَشْرَفِي

خواجہ سیدنا شاہ نور اللہ اشرفی

الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيئِينَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

جیلانی سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ صَابِ

ان سے اے اللہ بحرمت شیخ المشاخخ ولایت

الْوَلَايَةِ وَالْهُدَايَةِ حَضَرَتِ خَوَاجَهُ سَيِّدِنَا

اور ہدایت والے حضرت خواجہ سیدنا

الشَّاهُ هِدَايَةِ اللهِ أَشْرَفِي الْجِيلَانِي

شاہ ہدایت اللہ اشرفی جیلانی

سَجَّادَةَ نَشِيئِينَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَايخِ مُتَخَلِّقُ

اے اللہ بحرمت شیخ المشاخخ اللہ کی عادتیں

بِاخْلَاقِ اللَّهِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ

اپنانے والے حضرت خواجہ سیدنا شاہ

عِنَايَتِ اللَّهِ أَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيئِنِ

عنایت اللہ اشرفی جیلانی سجادہ نشین

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بحرمۃ شیخ

الْمَشَائِخِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْعَطَايَةِ حَضْرَتِ

المشاخ جود و عطا والے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ نَذْرَ اشْرَفِي

خواجہ سیدنا شاہ نذر اشرفی

الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيئِنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

جیلانی سجادہ نشین رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ غَرِيبِ نَوَازِ

اے اللہ بحرمۃ شیخ المشائخ غریب نواز

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ مُحَمَّدِ نَوَازِ

حضرت خواجہ سیدنا شاہ محمد نواز

أَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيئِنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

اشرفی جیلانی سجادہ نشین رضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إلهي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُتَّصِفٌ

ان سے اے اللہ بحرمت شیخ المشائخ متصف

بِصِفَاتِ اللَّهِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ

سابقہ اللہ کی صفات کے حضرت خواجہ سیدنا شاہ

صِفَتِ أَشْرَفِ أَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيئِنُ

صفت اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلهي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بحرمت شیخ

الْمَشَائِخِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ حَضْرَتِ

المشائخ علم اور حکمتوں کے منبع حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ قَلَنْدَرُ بَخْشِ أَشْرَفِي

خواجہ سیدنا شاہ قلندر بخش اشرفی

الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيئِنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

جیلانی سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إلهي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ صَاحِبِ

اے اللہ بحرمت شیخ المشائخ سخاوت

الْجُودِ وَالْكَرَمِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ

اور کرم والے حضرت خواجہ سیدنا شاہ



مَنْصَبٌ عَلَى أَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيْن

منصب علی اشرفی جیلانی سجادہ نشین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِي

رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بھرت شیخ

السَّيِّدِ الْمَشَاطِيخِ صَاحِبِ الْعِرْفَانِ وَالْإِيْقَانِ مُرِيدِ

المشائخ عرفان و یقین والے ہدایت دینے والے

الْأَنَامِ خَضْرَتِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ أَبُو مُحَمَّدٍ

لوگوں کے حضرت خواجہ سیدنا شاہ ابو محمد

أَشْرَفُ حُسَيْنِ أَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيْن

اشرف حسین اشرفی جیلانی سجادہ نشین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِي

رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بھرت شیخ

السَّيِّدِ الْمَشَاطِيخِ سَيِّدِ الْعُرَفَاءِ سَنَدِ الْأَتْقِيَاءِ جَرَّ كَوْشِ

المشائخ سردار عارفوں کے، سند متقیوں کے جگر گوشہ

إِمَامِ حُسَيْنِ شَبِيهِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ خَضْرَتِ

امام حسین کے ہم شکل غوث پاک کے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا الشَّاهِ أَبُو أَحْمَدَ الْمَدْعُوُّ مُحَمَّدٌ

خواجہ سیدنا شاہ ابو احمد کہ نام ہے ان کا محمد

عَلَى حُسَيْنٍ أَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَادَةٌ

علی حسین اشرفی جیلانی سجادہ

نَشِيْنِ آسْتَانَهُ عَالِيَهُ رُوْحِ أَبَادٍ كَجَهْوَجْهَهُ

نشین آستانہ عالیہ روح آباد کچھوچھہ

شَرِيْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَانَا عَنَا

شریف رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اور رضی رکھے انہیں ہم سے

اللَّهُمَّ بَعِجْزِ وَبِنْيَا زُخَا كَيْانِي

اے اللہ بہ بجز و نیاز درویشوں کے قدموں

دُرُوْشَانِ كَرْدٍ نَعْلَيْنِ خُوبِ كَيْشَانِ فَقِيْرٍ

کھانک کے کے جوڑوں کی گرد فقیر

حَقِيْرٍ غُلَامٍ قَادِرٍ اَلْاَشْرَفِي الْقَادِرِي

حقیر غلام قادر اشرفی قادری کے

غُفْرَانَهُ وَلِوَالِدَيْهِ طُحْدًا وَنَدَا بِحُرْمَتِ حَضْرَتِ

بخشش ہو اسکی اور اس کے والدین کی، اے اللہ بحرمت حضرت

اَحْمَدِ مَجْتَبِيْ مُحَمَّدٍ مُصْطَفِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے درود بھیجا اللہ ان کے

وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ جَمِيْعِ

اور ان کی آل اور اصحاب پر اور برکت کے اور سلام بھیجے ہجرت تمام

بُزْرَكَانِ خَانِدَانِ قَادِرِيَّةِ جَلَالِيَّةِ اَشْرَفِيَّةِ

بزرگانِ خاندانِ قادریہ جلالیہ اشرفیہ

اَزْ سَلْبِ اِيْمَانٍ وَاَزْ هَرِّ عِلَّتٍ وَاَقِلَّتٍ

ایمان کے چھین لئے جانے اور ہر بیماری اور کمی

وَذَلَّتٍ دَرَّحِفْظِ خُودٍ مَرَامِ حِفْظِ دَارٍ

اور رسوائی سے اپنی حفاظت میں مجھے محفوظ رکھ

اِمِيْنُ اِمِيْنُ اِمِيْنُ

اے اللہ میری دعائیں قبول فرما

يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

اے پالنے والے جہانوں کے

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اپنی رحمت سے اے زیادہ رحم والے رحم کرنے والوں سے

هَذِهِ سِلْسِلَةٌ فِي حَشِيَّةِ وَتَهْشِيَّةِ وَنُظْمِ مَبِينٍ

بِمَرَجِيَّةِ التَّرْوِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بخشنے والا مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

سب تعریفیں اللہ کیلئے جو پانے والا جہانوں کا ہے اور نفع آخرت کا پر سیرکاروں کو

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ

درود اور سلام ہو اس کے رسول پر جن کا نام محمد ہے اور انکی آل اور

أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ فَهَذِهِ سِلْسِلَتِي مِنْ

اصحاب سب پر اس کے بعد ہیں یہ سلسلہ میرا ہے میرے

مَشَاحِنِي فِي طَرِيقَةِ الْإِحْسَانِيَّةِ مِنْ ضَوَائِدِ اللَّهِ

مشائخ کا طریقہ چشتیہ میں رضا ہو اللہ

تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدِي

تعالیٰ کی ان سب پر اے اللہ بطفیل سردار

الْكُونَيْنِ وَرَسُولِ الثَّقَلَيْنِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دو جہان کے اور رسول دو جہان کے حضرت سیدنا محمد

السُّطُوفِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

سطفی رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان پر اور انکی آل پر اور سلام

إِلٰهِنِي بِحُرْمَةِ مَدِينَةِ الْعُلُومِ وَالْمَطَالِبِ

اے اللہ بظہیر علوم اور مقصدوں کے شہر

إِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

مشرقوں اور مغربوں کے امام امیر مومنوں کے

وَأَمَامِ الْأَشْجَعِينَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

اور امام بہادروں کے سردار ہمارے علی بن ابوطالب

كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ هَذَا إِلٰهِنِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

عزت دے اللہ تعالیٰ ان کے ہرے کو اے اللہ بظہیر بزرگ

السَّيِّدِ الشَّيْخِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ أَبِي النَّصْرِ سَيِّدِنَا الْحَسَنِ

بزرگوں کے حضرت خواجہ سیدنا ابو نصر حسن

الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَذَا إِلٰهِنِي

البصری راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ السَّيِّدِ الشَّيْخِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ

بظہیر بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

أَبُو الْفَضْلِ سَيِّدِنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ

ابو الفضل عبد الواحد بن زید راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِ بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

تعالیٰ عنہ اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَةِ خَواجَةِ أَبِي الْفَيْضِ سَيِّدِنَا فَضِيلِ بْنِ

حضرت خواجہ ابو الفیض فضیل بن

عِيَّاضٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِ

عیاض راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ أَمَانَ الْأَرْضِ حَضْرَةِ خَواجَةِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے امانیے والے زمین پر حضرت

سَيِّدِنَا سُلْطَانَ إِبْرَاهِيمَ أَدَهَمَ الْبَلْخِي رَضِيَ

خواجہ سلطان ابراہیم ادہم بلخی راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِ بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَةِ خَواجَةِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ الدِّينِ حُذَيْفَةَ

حضرت خواجہ سید الدین حذیفہ

الْمَرْعَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِ

مرعشی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ

أَمِينِ الدِّينِ أَبِي هُبَيْرَةَ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللهُ

امین الدین ابی ہبیرہ البصری راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

تعالے ان سے اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے

حَضْرَةِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا مَشَارِدِ عَلَوْدِ دِينَورِيِّ رَضِيَ

حضرت خواجہ مشارد علو دینوری راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بحرمت بزرگ

الْمَشَائِخِ سَرِّ سِلْسِلَةٍ چَشْتِيَانِ خَوَاجَةِ

بزرگوں کے سردار سلسلہ چشتیاں کے خواجہ

خَوَاجِجَانِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا أَبِي اسْمَاقِ شَامِي

خواجگان کے حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی

چَشْتِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي

چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُدْوَةِ الْحَقِّ وَالدِّينِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے برگزیدہ حق اور دین کے

حَضْرَةُ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا اَبِي اَحْمَدَ بْنِ فَرَسَنَافَةَ

حضرت خواجہ ابو احمد بن فرسنافہ

الْحِشْتِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِي

چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ الْحَقِّ وَالِدِيْنِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے قطب حق اور دین کے

حَضْرَةُ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا اَبِي مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ

حضرت خواجہ ابو محمد بن احمد

حِشْتِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِي

چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

وَبِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ نَاصِرِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ ناصر

الْحَقِّ وَالِدِيْنِ سَيِّدِنَا اَبِي يُوْسُفَ حِشْتِي

مددگار حق اور دین کے ابو یوسف چشتی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْاِلهِي بِحُرْمَةِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ قُطْبِ الْحَقِّ

بزرگ بزرگوں کے حضرت خواجہ قطب حق



وَالَّذِينَ سَيِّدَنَا مَوْدُودَ چِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

اور دین کے مودود چشتی راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ

ان سے اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

خَوَاجَةَ كُنْزٍ وَمَسِيدِنَا حَاجِي شَرِيفِ زُنْدَانِي رَضِيَ

خواجہ کنز مخدوم حاجی شریف زندانی راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے

مُقَدِّمَاءِ أَهْلِ عِرْفَانِ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ

پیشوا معرفت والوں کے حضرت خواجہ عثمان

هَزُونِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَةِ

ہزونی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ الْعَارِفِينَ سَيِّدِ

بزرگ بزرگوں کے قطب عارفوں کے بیکہ گما

السُّوْحَيْدِيْنَ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ بَزْرُكٍ مُعِينِ الْحَقِّ وَ

توحید پرستوں کے حضرت خواجہ بزرگ مددگار

الَّذِينَ سَيِّدِنَا حَسَنَ سَبْجَوِيٍّ ثُمَّ أَجْمِرِيٍّ

حق اور دین کے حسن سجری پھر اجمیری

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِهِى بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل بزرگ

السَّائِخِ بُرْهَانَ چَشْتِيَانْ شَهِيدًا لِحَبَّةِ

بزرگوں کے دلیل چشتیوں کے شہید محبت کے

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ قُطْبِ الْحَقِّ وَالذِّينِ سَيِّدِنَا

حضرت خواجہ قطب حق اور دین کے

بِخْتِيَارِ كَاكِي أُوشِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

بختیار کاکی اوشی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

الْإِهِى بِحُرْمَةِ شَيْخِ السَّائِخِ حَرِيْقِ

اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے جلے ہوئے

السَّحْبَةِ إِمَامِ الْعَارِفِينَ سُلْطَانِ

محبت میں امام عارفوں کے بادشاہ

الزَّاهِدِينَ حَضْرَةِ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا فَرِيدِ الْحَقِّ

زاہدوں کے حضرت خواجہ فرید حق

وَالذِّينِ مَسْعُودٍ كَنْجِ شَكَرٍ لَأَجْوَدِ هِنِي

اور دین کے مسعود گنج شکر اجودہنی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِهِى بِحُرْمَةِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل

شَيْخُ الْمَشَائِخِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ بُرْهَانَ

بزرگ بزرگوں کے بادشاہ عاشقوں کے دیں

الْمَعْشُوقِينَ مَحْبُوبِ إِلَهِي سُلْطَانَ

مَعْشُوقِينَ کے محبوب اللہ کے بادشاہ

الْمَشَائِخِ حَضْرَةَ خَواجِ سَيِّدِنَا نِظَامِ الْحَقِّ

بزرگوں کے حضرت خواجہ نظام حق

وَالدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بَدَاوَانِي

اور دین کے محمد بن احمد بداوانی

بُخَارِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي

بخاری راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُسْتَغْرِقِ بَحْرِ

بطفیل بزرگ بزرگوں ڈوبے ہوئے دریا

شُهُودِ سِرَاجِ الْعَارِفِينَ حَضْرَةَ خَواجِ سَيِّدِنَا

شہود کے سراج عارفوں کے حضرت خواجہ

شَيْخِ عُمَانَ أَخِي سِرَاجِ الْحَقِّ وَالدِّينِ

شیخ عثمان اخی سراج حق اور دین کے

أَثِينَهُ هِنْدُ أَوْدِهِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ

آئینہ ہند کے اودھی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَمِيعِ

اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے شمع

شَيْبَتَانِ هِدَايَتٍ مِهْرًا نُورًا وَجْهَ وَلايَتٍ

باغ ہدایت کے مہر انوار بندی ولایت

حَضْرَةِ خَواجَةِ سَيِّدِنَا عَلَاءِ الْحَقِّ وَالِدِيْنِ

حضرت خواجہ بندی حق اور دین کے

كَنْجِ بَنَاتِ پَنْدُوِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

گنج بنات پنڈوی رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سُلْطَانِ

اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے بادشاہ

الْأَوْلِيَاءِ قُدْوَةَ الْكُبْرَى تَارِكِ الْمَسْلُكَةِ وَ

ولیوں کے پیشوا بڑے ترک کرنیوالے مملکت کے اور

الْكُونَيْنِ مُرْشِدِ الثَّقَلَيْنِ وَاقِفِ رُمُوزِ

دو جہان کے ہدایت کرنیوالے ثقلین کے جلنے والے رموز

حَقَائِقِ الْإِلَهِي كَاشِفِ دَقَائِقِ نَامُتْنَاهِي

حقیقتوں الہی کے کھولنے والے ہاریکپوں بے شمار کے

مَلَاذِ أَرْبَابِ شَوْقِ وَعِرْفَانِ مَعَادِ اصْحَابِ

جلے پناہ صاحب شوق و عرفان کے لوٹنے کی جگہ اصحاب

ذَوْقٌ وَوَجْدَانٌ مَظْهَرٌ قَاتِ رَحْمَانِي

ذوق اور وجدان کے مظہر صفتوں اللہ تعالیٰ کے

مَوْرِدِ الطَّافِ سُبْحَانِي مُخَاطَبٌ بِخَطَابِ

جگہ وارد ہونے مہربانیوں اللہ تعالیٰ کی خطاب کئے گئے ساتھ

مَحْبُوبٌ يَزْدَانِي حَضْرَتِ غَوْثِ الْعَالِمِ

محبوب یزدانی کے حضرت غوث جہان کے

مِيرَ كَبِيرٍ مَخْدُومٍ اَوْحَدِ الدِّينِ سُلْطَانِ سَيِّدِنَا

میر کبیر مخدوم اوحدا الدین سلطان

سَيِّدِ اشْرَفِ جَهَانِكِ رَسْمَانِي رَضِيَ اللهُ

سید اشرف جہانگیر سمنانی راضی ہوا اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هِيَ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ قِدْوَةِ الْاَبْرَارِ

تعالیٰ ان سے اے اللہ بظہیل پیشوائیوں کے

عُمْدَةِ الْاَخْيَارِ مَظْهَرِ اسْرَارِ اشْرَفِي مَنْظَرِ

عمدہ نیکوں کے مظہر اشرفی مجیدوں کے منظر

نَظَارَتِ اشْرَفِي زُبْدَةِ الْاَفَاقِ مَرْضِيَّةِ

اشرفی نظاروں کے خلاصہ آفاق کے پسندیدہ

اخْلَاقِ مَهَبِطِ انْوَارِ مَشِيخَتِ عَلِي

اخلاق والے ہمدردی کے انوار کے اترنے کی جگہ مطلقاً

الإِطْلَاقِ وَحَضْرَةِ نُورِ الْعَيْنِ سَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّزَاقِ

عزت نور آنکھ کے عبد الرزاق

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِهِى بِحُرْمَةِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ ان کے اے اللہ بظہیل بزرگ

الْمَشَائِخِ حَضْرَةِ خَوَاجِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ حُسَيْنِ

بزرگوں کے حضرت خواجہ سید حسین

خَلْفِ ثَانِي سَجَادَةَ نَشِيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

خلف ثانی سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هُ الْإِهِى بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سَيِّدِ

ان سے اے اللہ بظہیل شیخ مشائخ کے کچھ گاہ

الْأَصْفِيَاءِ حَضْرَةِ خَوَاجِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ جَعْفَرِ عَرَفِ

صوفیوں کے حضرت خواجہ سید عرف

لَاذُ سَجَادَةَ نَشِيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

الْإِهِى بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ

اے اللہ بظہیل بزرگ بزرگوں کے قطب

الزَّمَانِ حَضْرَةِ خَوَاجِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ جَرَّاحِ جِهَانَ

زمانہ نے حضرت خواجہ سید چراغ جمال

سَجَادَةٌ لِنَشِيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ **إِلَهِي بِحُرْمَةِ**

سجاده نشین رضی ہو اللہ ان سے اے اللہ بطفیل

شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَمْسِ الْعَارِفِينَ حَضْرَةِ خَواجِه سَيِّدِنَا

شیخ مشائخ کے سورج عارفوں کے حضرت خواجہ سیدنا

سَيِّدِ مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْحَقِّ وَالذِّينِ سَجَادَةٌ لِنَشِيْنٍ

سید محمود شمس حق اور دین کے سجاده نشین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ **إِلَهِي بِحُرْمَةِ** شَيْخِ الْمَشَائِخِ

رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل شیخ مشائخ کے

سِرَاجِ الْوَاوِلِينَ حَضْرَةِ خَواجِه سَيِّدِنَا سَيِّدِ جَوِيْدِ سَجَادَةٌ

چراغ واصلوں کے حضرت خواجہ سیدنا سید راجو سجاده نشین

نَشِيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ **إِلَهِي بِحُرْمَةِ** شَيْخِ الْمَشَائِخِ

رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل شیخ مشائخ کے

مَنْبِعِ الْوَارِثِينَ حَضْرَةِ خَواجِه سَيِّدِنَا سَيِّدِ أَحْمَدِ سَجَادَةٌ

منبع الوارثین کے حضرت خواجہ سیدنا سید احمد سجاده نشین

نَشِيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ **إِلَهِي بِحُرْمَةِ** شَيْخِ الْمَشَائِخِ

رضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل شیخ مشائخ کے

الْمُتَخَلِّقِ بِأَخْلَاقِ اللهِ حَضْرَةِ خَواجِه سَيِّدِنَا سَيِّدِ فَتْحِ اللهِ

اللہ کے اخلاق سے سنوارے ہوئے حضرت خواجہ سیدنا سید فتح اللہ

سَجَادَةٌ لِّنَشِيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ الْإِلهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے

قُطْبِ الْإِرْشَادِ حَضْرَةِ خَوَاجِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ مُحَمَّدٍ مُرَادٍ

قطب ارشاد کے حضرت خواجہ سید محمد مراد

سَجَادَةٌ لِّنَشِيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي

سجاده نشین راضی اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ التَّكْوِينِ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے قطب تکوین کے

حَضْرَةِ خَوَاجِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ بَهَاءِ الْحَقِّ وَالِدِ الدِّينِ

حضرت خواجہ سید بہار حق اور دین کے

سَجَادَةٌ لِّنَشِيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي

سجاده نشین راضی اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ وَاقِفِ رَمُوزِ خَفِيِّ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے واقف رموز پوشیدہ اور

جَلِيِّ حَضْرَةِ خَوَاجِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ تَوَكُّلِ عَلِيِّ سَجَادَةٌ

ظاہر کے حضرت خواجہ سید توکل علی سجاده

نَشِيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَةِ

نشین راضی اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ بطفیل



شَيْخِ السَّنَائِحِ مَحْرَمِ أَسْرَارِ لَمَيْرِزِي حَضْرَتِ

بزرگ بزرگوں کے جاننے والے بھیدوں اللہ کے حضرت

خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ دَاوُدَ عَلِي سَجَّادَةَ نَشِيئِن رَضِيَ

خواجہ سید داؤد علی سجادہ نشین راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هِيَ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

اللہ تعالیٰ ان سے اسے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے

صَاحِبِ عِزٍّ وَشَرَفٍ حَضْرَةَ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ

عز اور شرف والے حضرت خواجہ سید

نِيَازِ اشْرَفِ سَجَّادَةَ نَشِيئِن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

نیاز اشرف سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هِيَ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ السَّنَائِحِ مُرْتَدِ

ان سے اسے اللہ بطفیل بزرگ بزرگوں کے ہدایت دینے والے

الْآنَامِ حَضْرَةَ خَوَاجَةِ سَيِّدِنَا سَيِّدِ اشْرَفِ حُسَيْنِ

لوگوں کے حضرت خواجہ سید اشرف حسین

سَجَّادَةَ نَشِيئِن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هِيَ إِلَهِي

سجادہ نشین راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اسے اللہ

بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُدْوَةَ الْأَصْفِيَاءِ زَيْدَةَ

بطفیل بزرگ بزرگوں کے پیشوا صوفیوں کے غلامہ

الْأَتْقِيَاءِ آلِ رَسُولِ أَوْلَادِ بَتُولِ ابْنِ شَيْخِ خُدَا

متقیوں کے آل رسول، اولادِ فاطمہ بتول کے بیٹے شیر خدا کے

فَرْزَنْدِ حَسَنِ مُجْتَبَى شَبِيهِ غَوْتِ الثَّقَلَيْنِ

فرزندِ حسن بزرگ کے ہمشکلِ غوثِ دو جہانوں کے

فَخْرِ خَانِدَانِ حُضُورِ نُورِ الْعَيْنِ عَارِفِ حَقَّانِي

فخر خاندانِ حضورِ نورِ آنکھ کے عارفِ حقانی

مَحْبُوبِ رَبَّانِي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَهَادِيَنَا وَ

محبوبِ ربانی سردار اور آقا اور ہادی اور

مُرْشِدِنَا حَضْرَةَ سَيِّدِنَا أَبُو أَحْمَدِ شَاهِ مُحَمَّدٍ

مرشد ہمارے حضرت ابوالحسن شاہ محمد

عَلِي حُسَيْنِ أَشْرَفِي الْجِيلَانِي سَجَّادَةَ نَشِيْنِ

علی حسین اشرفی جیلانی سجادہ نشین

أَسْتَانَهُ مُقَدِّسَهُ فَخْدُومِ أَشْرَفِ السَّمْنَانِي

آستانہ مقدسہ مخدوم اشرف سمنانی

رُوحِ أَبَادٍ كَجْهٍ وَجْهَهُ شَرِيفِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

روحِ آباد کجھو جھہ شریفِ راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ إِلَهِي بِعِجْزِ وَنِيَا زِحَا كِبَانِي

ان سے اے اللہ بیجز و نیازِ خاک پاؤں

دُرُوبِشَانٌ وَكَرْدِ نَعْلَيْنِ خُوبِ كَيْشَانِ فِقِيرِ

درویشوں کی اور گرد جوڑوں فقیر

حَقِيرٌ غُلَامٌ قَادِرٌ اَشْرَفِي غُفْرَانَهُ وَاِلَى اَيْدِيهِ ط

حقیر غلام قادر اشرفی بخشے اللہ سے اور اس کے والدین کو

خُدَا وَاَنْدَا اِحْمَدِ حَضْرَةِ سَيِّدِنَا اَحْمَدِ مُجْتَبَى مُحَمَّدِ

اے خدا بطفیل احمد مجتبیٰ محمد

مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

مصطفیٰ رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل اور صحابہ پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَبِحَرَمَةِ جَسِيمِ خَوَاجِكَا نِ

اور برکت دے اور سلام بھیجے اور بطفیل تمام خواجگان

چِشْتِ اَهْلِ بَهِشْتِ اَزْ سَلْبِ اِيْمَانِ وَاَزْ

چشت اہل بہشت ایمان کے سلب ہونے اور

هَرُ عِلَّتْ وَقِلَّتْ وَذَلَّتْ دَرُجُفِظِ خُودِ مَرَا

ہر بیماری اور کمی اور رسوائی اپنی حفاظت میں مجھے

مَحْفُوظِ دَارِ اِمِيْنِ اِمِيْنِ اِمِيْنِ يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

محفوظ رکھ آمین آمین آمین اے پالنے والے جہانوں کے

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

اپنی رحمت سے اے بہت رحم والے رحمت کرنے والوں کے

# شجرہ منظومہ فارسی

سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سرسراجیہ اشرفیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یارب بہ محمد بہر علی بہ حسن سلطان دین مدد سے  
 بن زید و فضل و ابراہیم و حذیفہ امین الدین مدد سے  
 پتے ممشاد و اسحاق احمد ہم شاہ محمد بو یوسف  
 مودود و شریف و ہم عثمان بہ معین و قطب الدین مدد سے  
 بہ فرید و نظام و سراج و علا پتے اشرف نور العین ولی  
 بہ حسین و جعفر و ہم حاجی پتے شمس الحق والدین مدد سے  
 پتے راجو و احمد فتح اللہ بہ مراد و بہار و توکل من  
 بہر داؤد نیاز ولی پتے اشرف نیک تہیں مدد سے  
 از حضرت شاہ بو احمد و ز عجز و نیاز مرشد من  
 بر خستگی و جانم نظر سے بر حال من مسکین مدد سے

## شجرہ منظرہ فارسی

سلسلہ عالیہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یارب بہ محمد بہر علی بہ حسن سلطان دین مددے  
 بہ حبیب و طانی و ہم کمرخی بہ سری جنید امین مددے  
 بہ ابوبکر و عبد الواحد ہم ابوالفسح پئے ہنکاری  
 بہ سعید و غوث جیلانی بہ علی محبوب ترین مددے  
 پئے افرح و ابوالغیث و فاضل بہ عبید و جلال و شہ سمنان  
 پئے نور العین و بہر حسن بہ شہید گوشہ نشین مددے  
 بہ محمد بہر حسین ولی پئے عبد الرسول و نور اللہ  
 بہ ہدایت و پیر عنایت شاہ پئے نذر ہادی میں مددے  
 بہ نواز و صفت و قلندر حق پئے منصب و اشرف و ابوالاحمد  
 بعجز و نیاز مرشد من بر اشرفی نمسکین مددے

# شجرہ منظر و مراد و

سلسلہ عالیہ چشتیہ منظر سامیہ سر اجتیبہ اشرفیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا الہی رسم فرما مصطفیٰ کے واسطے  
یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے  
مشکلین حل کر شہ مشکاکشا کے واسطے

سرورِ پاکاں علیٰ مرتضیٰ کے واسطے  
جز ترے کس سے کہیں سن لیجئے فریاد کو  
شہ حسن بصری امام اولیاء کے واسطے  
ساغر وحدت پلا اور جوش الفت کر عطا

شیخ عبد الواحد پیر مدنی کے واسطے  
راہزن ہے نفس بکشر اے خدا امداد ہو

حضرت خواجہ فضیل باصفا کے واسطے  
رکھ مجھے محفوظ شیطان کے فریب مکر سے

شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے  
مجھ کو دکھلا دے جمال پیشوائے دو جہاں

شہ سدیدین خلیفہ حق نما کے واسطے  
 نور عرفاں سے بے روشن مرادوں اے خدا  
 شہ امین الدین ہبیرہ با خدا کے واسطے  
 دور کرنے لہج و غم اے حامی و ناصر میرے  
 شاد رکھ مشاد ہادی رہنا کے واسطے  
 مے محبت کی پلا ایسی کہ مستانہ رہوں  
 شاہ بوا اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے  
 چار سو بلوہ نظر آئے شہ لولاک کا  
 شاہ بوا احمد شہ ملک بقا کے واسطے  
 بہرہ در اخلاق حسنہ سے مجھے کرا سے کریم  
 حضرت شاہ محمد خوش نفا کے واسطے  
 کار ساز بیکیاں اے چارہ بھینچا رگاں  
 حسرتیں پوری ہوں یوسف مہلقا کے واسطے  
 از پتے مود و درستی وز پتے حامی شریف  
 کریم فرما شیخ عثمان پیشوا کے واسطے  
 والی ملک ولایت خواجہ حسین الدین حسن  
 آفتاب چشتیاں نور الہدیٰ کے واسطے  
 شمع روئے خواجہ کا تو مجھ کو پروانہ بنا  
 شاہ قطب الدین کا کی بے پیا کے واسطے

انقار و زہد میں اعلیٰ مراتب کو عطا  
 شہ فرید الدین زہد الانبیاء کے واسطے  
 تیرے لطف و کرم سے توفیق تو بہ ہو نصیب  
 شہ نظم الدین محبوب خدا کے واسطے  
 نور عرفان الہی ہو عطا معطی میرے  
 شہ سراج الدین سراج اصفیاء کے واسطے  
 نور ایمان سے مراد دل روشن و تاباں ہے  
 شہ علاء الحق تاج اولیاء کے واسطے  
 اشرفی کو اشرفی رکھ اشرفیوں میں اٹھا  
 غوث العالم شاہ اشرف پادشاہ کیواسطے  
 بیکراں ہے فیض کا دریا شہ سمنان کا  
 قطرہ ہو اس سے عطا مجھ بے نوا کیواسطے  
 کہ منور دل میرا تو نور عرفان سے خدا  
 بندہ رزاق نور اصفیاء کے واسطے  
 واسطہ سید حسین و جعفر و حاجی چہراغ  
 سید محمود راجورہ ہنما کے واسطے  
 سید احمد اور سید فتح اللہ کے طفیل  
 رحم کر محمد مراد با وفا کے واسطے  
 شہ بہار الدین شہ توکل علی کے واسطے



خواجہ داود علی صاحب لہو کے واسطے  
 واسطہ سید نیاز اشرفی شاہ جہاں  
 کرم فرما شاہ اشرف باعطا کے واسطے  
 حب احمد سے مرے قلب و جگر معمور کر  
 شاہ بو احمد امام اصفیاء کے واسطے  
 دین و دنیا کا وسیلہ ہمیشہ پیران پیر  
 مقتدار و رہنمائے القیام کے واسطے  
 یا محبوب السالین مقبول ہو میری دعا  
 اشرفی بخستہ جان و بے نوا کیواسطے

# شجرہ منظر و مراد دو

سلسلہ عالیہ تادریہ جلالیہ شریفیہ

بخش دے یارب شفیع دوسرا کے واسطے  
 سرور و سید محمد مصطفیٰ کیواسطے  
 دین و دنیا کی ہر سب مشکلیں انسان کر  
 حضرت مولا علی مشککتا کے واسطے  
 دے مجھے توفیق حسن عمل کی پروردگار  
 شہ حسن بصری حبیب دلربا کے واسطے  
 یا الہی رنگ داؤدی میں مجھ کو رنگ دے  
 حضرت داؤد طائی خوش ادا کے واسطے  
 یا الہی امر بالمعروف کی توفیق دے  
 حضرت معروف کرخی رہنما کے واسطے  
 یا الہی مجھ پہ تو ہر سرخنی کر دے جلی  
 شہ بصری سقطی کے کشف حق نما کیواسطے  
 کر رفاقت جنید حق کی اے امیر کبریٰ انصیب  
 حضرت شیخ جنید پارسا کے واسطے

یا الہی ذوق و شوق و مہر و اُلفت کر عطا  
 حضرت ابو بکر شیبلی با صفا کے واسطے  
 ایک دیکھوں ایک جانوں ایک کا ہو کر رہوں  
 عبد و احد شہ تمیمی کی سخا کے واسطے  
 دین و دنیا کی عطا کر دیجئے سب نعمتیں  
 حضرت ابو الفرح طرطوسی خدا کے واسطے  
 یا الہی حسن نیت حسن ایماں کر عطا  
 ابو الحسن ہنکاری پیر مدنی کے واسطے  
 عاقبت میری مبارک میری دنیا ہو سعید  
 ابو سعید شہ مبارک با خدا کے واسطے  
 الغیث الغیث یا غیث العالمین  
 غوث الاعظم بندہ قدرت نما کے واسطے  
 ذکرِ خدا کی جلوہ رہنمایاں کر دے عطا  
 شہ علی خدا میرے پیشوا کے واسطے  
 بخش دے یارب مجھے دارین کی پوری فلاح  
 شہ علی اقلع کے زہد و اتقار کے واسطے  
 مجھ پر یارب جھوم کر برسے تیرا ایہ کرم  
 حضرت ابو الغیث و فاضل کحق نما کی واسطے  
 رات دن برسا کرے ذوق عبادت کی گھٹا

شہ عابد غیبی با ائق کے واسطے  
 دین کو میرے جلالت کر عطا انے والی جلال  
 شہ جلال الدین بخاری رہنما کے واسطے  
 دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا مجھے  
 اشرف سمنان مرے غوث لوری کیواسطے  
 یا الہی دیدہ و دل نور سے معمور کر  
 نور عین و شہ حسن صاحب عطا کیواسطے  
 دل میں ہو عشق محمد لب پہ ہو حمد خدا  
 شہ محمد اشرف شاہ بدی کے واسطے  
 میرا سر ہو اور سودائے محمد مصطفیٰ  
 شہ محمد اور حسین مہ لقا کے واسطے  
 مجھ کو اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائیں رسول  
 سید عیذ الرسول رہنما کے واسطے  
 جس طرف دیکھوں نظر آئے مجھے نور خدا  
 شاہ نور اللہ نور الاصفیاء کے واسطے  
 یا الہی تو مجھے راہ ہدایت پر چلا  
 حضرت شاہ عنایت با خدا کے واسطے  
 یا الہی ہر گھڑی ہو ذکر و فکر ہی مشغلہ  
 نذر اشرف سید اصل صفا کے واسطے

یا الہی ہر صفت میں اشرفی انداز ہو  
 شہ نواز و صفت اشرف باعطا کے واسطے  
 مست کر دے مست کھ اور ناپنے مستوں میں اٹھا  
 حضرت سید قلندر کی ولا کے واسطے  
 یا اللہ العالمین منصب میرا کر دے بلند  
 سید منصب علی کی ارتقا کے واسطے  
 یا الہی یا دے تیری کبھی غافل نہ ہوں  
 شاہ بو احمد امام اذکیار کے واسطے  
 ہم پہ ہو احمد کا سایہ ہم پہ اشرف کا کرم  
 اشرفی خاک پائے اولتیار کے واسطے

# شجرہ قادریہ منورہ منظرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے  
 یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے  
 مشکلیں حل کرے مشکل کشا کیواسطے  
 کر بلائیں رو شہید کر بلا کے واسطے  
 سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے  
 عظیم حق دے باقر علم ہدیٰ کے واسطے  
 صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر  
 بے غضب ریاضی ہو موسیٰ اور زار کے واسطے  
 بہر معروف ہو سری معروف ہے بخود سری  
 جتید حق میں گن جنید با صفا کے واسطے  
 بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا  
 ایک کار رکھ عبد واحد رہنما کے واسطے  
 بو الفرح کا صدقہ کر غم کو فرح، دے حسن وسعد  
 بو الحسن اور بو سعید سعد زرا کے واسطے

قادری کو قادری رکھت اور یوں میں اٹھا  
 قدرِ عیبِ القادر قدرتِ مہا کے واسطے  
 خانہ دل کو ضیاء سے روئے ایمان کو جمال  
 شاہِ دُولا اور منورِ مہا کے واسطے  
 یاد تیری باعثِ تزیینِ بزمِ جاں رہے  
 شاہِ انخون اور امیرِ بے ریا کے واسطے  
 شاہِ بواحمد کا صدقہ یا الہی کر عطا  
 نورِ عرفانِ اشرفی بے نوا کے واسطے

## بشارتِ عظمیٰ

اس سلسلہ عالیہ کو سلسلہ الذہب کہنا چاہیے جو عرفی طور پر  
 چار واسطوں سے حضور سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ عنہ تک پہنچتا  
 ہے یعنی حضرت پیر و مرشد سیدی ابواحمد سید شاہ علی حسین اشرفی  
 الجیلانی قدس سرہ کو حضرت شاہ محمد امیر کابلی قدس سرہ سے، انکو  
 حضرت ملا انخون فقیر امپوری قدس سرہ، ان کو شاہ منور الہ آبادی  
 قدس سرہ سے (جن کی عمر ساڑھے پانسو برس ہوئی)، انکو حضرت  
 شاہ دولا قدس سرہ نے دربارِ غوثیہ میں پیش کیا اور وہ حضرت غوث  
 الثقلین ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے مجاز و ماذون ہوئے۔

# تکبیر عاشقان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صبح و شام مرداں را ، مرداں صبح و شام را ،

مردوں کی صبح اور شام کو صبح و شام کے مردوں کو

مزید ذکرِ ذاکراں را ، عظمت و بزرگی جلال و جمالِ خدائے

ذاکروں کے ذکر کی زیادتی کو خدا کے جلال و جمال کی عظمت اور بزرگی

را ، نورِ پاکِ مصطفیٰ را ، چہار یارِ باصفارا ، ہر زلفین

کو مصطفیٰ کے نورِ پاک کو چاروں باصفایاروں کو ظہ اور

ظہ و بیس را ، دو ازدہ امام را ، چہار دہ معصوم پاک

بیس کی زلفوں کو بارہ اماموں کو چودہ پاک معصوموں کو

را ، اہل بیت را ، اولیاء را ، نبیاء را ، اصفیاء

اہل بیت کو ولیوں کو نبیوں کو صوفیوں کو

را ، اتقیا را ، زہاد را ، عباد را ، مشائخ را ،

پرہیزگاروں کو زاہدوں کو عابدوں کو مشائخ کو

سادات را ، علمائے شریعت را ، پیرانِ طریقت را ،

ستہدوں کو شریعت کے عالموں کو طریقت کے پیروں کو



روندگانِ راہ را ، جویندگانِ درگاہِ حق را ، ائمہ مکبِ راہ را ،

راہ پر چلنے والوں کو درگاہِ خدا تلاش کرنے والوں کو بڑے اماموں کو

قبولِ طاعت و نگاہداشتِ ایمان خوشنودی مرخلائے

عبادت کی قبولیت اور ایمان کی نگاہداشت ، خدا کی خوشنودی کو

را و بلائے کوری شیطان را ، سلامتی صاحبِ سجادہ

اور شیطان کی کوری کی مصیبت کو سلامتی سجادہ والے کی

مع فرندان و خلفاء و مریدان و معتقدان بوائے

سمیت فرزندوں اور خلیفوں اور مریدوں اور عقیدتمندوں کی واسطے

مزید دولت دارین و شوق و ذوقِ محبت و اخلاص

زیادتی دولت دارین اور شوق و ذوقِ محبت و اخلاص و جہان

کونین ، ہرکہ با درویش و درویش زادگان بصدق

کے جو کوئی ساتھ درویش اور درویش زادوں کے صدق

و اخلاص ظاہر و باطن در آید کارش برآید ، ہرکہ در

و اخلاص ظاہر و باطن سے آئے کام اس کا پورا ہوتا ہے جو رہ گیا

افتد کار او برافشد ، برائے انہزام شکر کفار و

کام اس کا رہ جاتا ہے واسطے شکست شکر کفار اور

نصرتِ عسکرِ اسلام و بیدار معنی محمد و واژدہ امام

امداد شکرِ اسلام و بیدار معنی محمد بارہ امام

ہم پریں سرشاہ تکبیر برآریم :

انہی تینوں شاہوں پر ہم تکبیر کہتے ہیں

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ

أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الصَّلَاةُ

بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے رسول

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِ

درود و سلام ہو آپ پر اے میرے سردار اے اللہ کے

اللَّهُ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ شَيْئًا لِّلَّهِ رَجُلٌ

دوست اے زمانہ والے خدا کے لئے مجھ پر عنایت ہو اللہ کے

اللَّهُ رِجَالُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ط

مرد اللہ کے نیک مردو!

برگزیدہ رحمن نبی ایشاں خاندان مصطفیٰ و محبتی

بزرگ رحمن انبیاء وہ خاندان مصطفیٰ و محبتی

چار یار باصفاء شہدار دشت کربلا محمد دست حبیب اللہ

چار یار باصفاء کربلا کے شہدار محمد دست حبیب اللہ

دوست علی ولی اللہ دوست یا کریم یا رحیم اللہ دوست

دوست علی ولی اللہ دوست یا کریم یا رحیم اللہ دوست

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ

درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے دوست

دست و کلمہ بر زمین نہم پیش خواجگانِ چشت اہل

ہاتھ اور کلمہ زمین پر رکھتا ہوں خواجگانِ چشت اہل

بہشت

بہشت کے سامنے

# مناجات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا

اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد پر جو سادات اور

السَّادَاتِ وَالْعُلَمٰیِّیْنَ شَفِیْعِ الْعَصَاةِ وَ

جہانوں کے سردار ہیں گنہگاروں اور عاصیوں کی شفاعت

الْمُذْنِبِیْنَ مُمْتَمِرًا مِّنَ الْاِخْلَاقِ مُطَهَّرًا

کرنے والے ہیں اچھے اخلاق کو پورا کرنے والے ہیں شرک اور نفاق

الْقُلُوْبِ عَنِ دَنَسِ الشِّرْكِ وَالتَّفٰقِ وَ

سے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں اور

عَلٰی اِلٰهِ الطَّیِّبِیْنَ وَعِزَّتِهِ الطَّاهِرِیْنَ رَضٰی

ان کی آل پاک اور عزت پاک پر راضی ہو

اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ۝ اللّٰهُمَّ

اللہ تعالیٰ ان کے سب اصحاب پر اے اللہ

أَحْيَانًا ذَاكِرِينَ وَأَمْتِنًا ذَاكِرِينَ وَأَحْسِرْنَا

زندہ رکھ کر ذکر کرنے والا اور موت دے ذکر کرتے ہوئے اور حشر کر ہمارا

فِي زُمْرَةٍ ذَاكِرِينَ ۝ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا عَاشِقِينَ

ذکر کرنے والا ان کے گروہ میں ہے اے اللہ ہمیں عاشق بنا کر زندہ رکھ

وَأَمْتِنَا عَاشِقِينَ وَأَحْسِرْنَا فِي زُمْرَةِ الْعَاشِقِينَ

اور عاشق عشق میں موت دے اور حشر کر ہمارا عاشقوں کے گروہ میں

اللَّهُمَّ أَحْيِنَا عَارِفِينَ وَأَمْتِنَا عَارِفِينَ

اے اللہ ہمیں عارف بنا کر زندہ رکھ اور عارف بنا کر موت دے

وَأَحْسِرْنَا فِي زُمْرَةِ الْعَارِفِينَ ۝ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا

اور ہمارا حشر فرما عارفوں کے گروہ میں اے اللہ ہمیں مسکین بنا کر

مِسْكِينًا وَأَمْتِنَا مِسْكِينًا وَأَحْسِرْنَا فِي زُمْرَةِ

زندہ رکھ اور مسکینی میں موت دے اور حشر فرما ہمارا مسکینوں کے

السَّالِكِينَ ۝ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَ

گروہ میں ہے اے اللہ ثابت رکھ ہمیں اسلام پر اور

الْإِيمَانَ وَأَمْتِنَا عَلَى الْإِيمَانَ وَأَحْسِرْنَا

ایمان پر اور موت دے ایمان پر اور حشر فرما ہمارا

عَلَى الْإِيمَانَ وَلَقِّنَا كَلِمَةَ الْإِيمَانَ ۝ اللَّهُمَّ

ایمان پر اور ہمیں کلمہ پر ایمان نصیب فرما اے اللہ

أَحْيَانًا فِي حَيَاةِ الْعُلَمَاءِ وَأَمْتِنًا بِمَوْتِ الشُّهَدَاءِ

زندہ رکھ سہیں علماء کی زندگی میں اور موت دے سہیں شہیدوں کی

وَأَحْشَرْنَا فِي زُمْرَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ

اور حشر فرما ہمارا اولیاء کے گروہ میں اور داخل کر سہیں جنت میں

مَعَ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ أَحْيَا سَعِيدًا وَأَمْتِنَا

نبیوں کے ساتھ۔ اے اللہ زندہ رکھ سہیں نیک اور موت دے

سَعِيدًا وَأَحْشَرْنَا فِي زُمْرَةِ السَّعْدَاءِ طَسَّرْنَا

نیک اور حشر فرما ہمارا نیکوں کے گروہ میں اے رب

اغْفِرْ لَنَا وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

بخش سہیں اور ہمارے بھائیوں کو جو پہلے ہوئے ہم سے ایمان کے ساتھ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا

اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں کینہ ان کے لئے جو ایمان لائے اے رب

إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا

تو بخشنے والا مہربان ہے اے رب بخش سہیں اور ہمارے والدین کو

وَلِأَسْتَاذِنَا وَلِمَشَاخِئِنَا وَإِخْوَانِنَا وَالْأَصْحَابِنَا

اور ہمارے استاذوں کو اور ہمارے مشائخ کو اور ہمارے بھائیوں کو اور ساتھیوں کو

وَلِأَحْبَابِنَا وَلَا زُبَايِنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ

اور دوستوں اور ارباب کو اور تمام مؤمنوں کو اور

السُّؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

سومنات اور مسلمین اور مسلمات

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَابِعِ بَيْنَنَا وَ

جو ان میں سے زندہ ہیں اور جو فوت ہو گئے درمیان ہمارے اور

بَيْنَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَلَمْ نَحْضُرِ الْيَتَامَانَ

ان کے دنیا میں اور جو ہمارے پاس حاضر ہے اور جو

غَابَ عَنَّا وَلَمْ نَأَسَسْ بِنَاءَ هَذَا الْمَكَانِ

ہم سے غائب ہے اور اس کو جس نے اس مکان کی بنیاد مضبوط کی

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فِي الدُّنْيَا نِيَارَةَ سَيِّدِنَا

اے اللہ نصیب فرما ہمارے دنیا میں زیارت حضرت سیدنا محمد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي

صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخرت

الْآخِرَةِ لِقَاءَهُ وَشَفَاعَتَهُ تُسَبِّحَانَ رَبِّكَ

میں ملاقات ان کی اور شفاعت ان کی ، پاک ہے رب تیرا

رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى

رب عزت کا اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو اویسے

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مرسلین کے اور تمام تعریفیں اللہ کیسے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے

یا الہی حسن خاتمت ایمان وصحت ابدان سلطان الوقت تابع

اے اللہ حسن خاتمہ ایمان اور صحت ابدان فرما، وقت کے بادشاہ تابع

شریح نبوی واحکام مصطفوی وحضرت سجادہ نشین جادہ اشرف

شریعت نبوی اور احکام مصطفوی اور حضرت سجادہ نشین گدڑی اشرف

اسمائی مع فرزندان صغار کبار و خاندان و برادران و متوسلین سلسلہ

سمائی کے بمع چھوٹے بڑے فرزندان اور خاندان و برادران اور متوسلین سلسلہ

من ابتداء الی یومنا بے کشود کار مشکلات ہر و سرتجیر براریم:

شروع سے آج کے دن تک واسطے دور کرنے دو جہان کی مشکلات کے تجیر کہتے ہیں

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے

اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ

اللہ بہت بڑا ہے اور تعریف اسی کیلئے ہے اور رحمت کرے اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں

خَيْرِ خَلْقِهِ وَ نَوْرِ عَرْشِهِ وَ سَيِّدِ رُسُلِهِ سَيِّدَانَا

بہترین اور اپنے عرش کے نور اور اپنے رسولوں کے سردار، ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَ عُلَمَاءِ مِلَّتِهِ

محمد اور آپ کی آل اور اصحاب اور اولیائے امت اور علمائے ملت

اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سب پر اپنی رحمت سے اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے



## حضرت شیخ الاسلام مدنی دامت برکاتہم

# اجازت

سلسلہ قادریہ منوریہ کے علاوہ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد ضیاء الدین احمد قادری رضوی مدنی نے ذیل کے واسطوں میں مجاز و ماذون فرمایا :

- ۱۔ فقیر اشرفی کو حضرت شیخ الاسلام مولانا قادری مدنی سے ان کو سید حسین الحسنی الکر دی سرہ سے ان کو سید اسماعیل الاولیائی قدس سرہ سے ان کو سیدی عبدالعزیز الجیش قدس سرہ سے ان کو قطب الآفاق سیدی عبدالرزاق قدس سرہ سے ان کو اپنے والد محترم سید ناغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
- ۲۔ فقیر اشرفی کو سیدی قادری مدنی سے ان کو سیدی شیخ احمد شمس قدس سرہ سے ان کو سیدی ماہ العینین قدس سرہ سے ان کو سیدی عبدالعزیز الجیش قدس سرہ سے ان کو قطب الآفاق سیدی عبدالرزاق قدس سرہ سے ان کو حضور سید ناغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
- ۳۔ فقیر اشرفی کو سیدی قادری مدنی سے ان کو قطب العالم سیدی امام احمد رضا خان بیلوی قدس سرہ سے ان کو مفتی بکتہ المکرہ سیدی عبدالرحمن السراج قدس سرہ سے ان کو سیدی محمد علی السنوسی قدس سرہ سے ان کو سیدی عبدالعزیز الجیش قدس سرہ سے ان کو قطب الآفاق سیدی عبدالرزاق قدس سرہ سے ان کو حضور سید ناغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
- ۴۔ فقیر اشرفی کو سیدی قادری مدنی سے ان کو سیدی شریف احمد السنوسی قدس سرہ سے ان کو سیدی الیہ المہدی قدس سرہ سے ان کو سید محمد علی السنوسی قدس سرہ سے ان کو سیدی عبدالعزیز الجیش قدس سرہ سے ان کو قطب الآفاق سیدی عبدالرزاق قدس سرہ سے ان کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔



